حَسْبِیَ اللّٰہُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کا مالک ہے

روحانی

عملیات و تعویذات عظیمی

مجرب مخفی عملیات و تعویذات کا مخزن عظیم نسخہ، وظائف
مراقبات، مشارب اور سورۂ قرآنیہ کا حل المشکلات

مرتبہ
حضرت قبلہ صوفی محمد اسلم نقشبندی مجددی

معاون
حاجی محمد عظیم عظیمی

پبلشرز
مشتاق بک کارنر، الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور

روحانی

عملیات و تعویزات عظیمی

مؤلفہ

حضرت مولانا صوفی محمد اسلم نقشبندی مجددی

معاون: حاجی محمد عظیم عظیمی

مشتاق بُک کارنر

الکریم مارکیٹ، اُردو بازار، لاہور

۱۵۳ مہروں کے پاس مت

Scanned with CamScanner

بسم اللہ الرحمن الرحیم

روحانی
عملیات وتعویزات عظیمی

ناشر —— مشتاق بک کارنر
اردو بازار لاہور
پرنٹنگ —— ظریف پرنٹرز لاہور
مؤلف —— صوفی محمد اسلم نقشبندی مجددی
تعداد —— ایک ہزار
کتابت —— محمد اسلم خوشنویس
قیمت 170 روپے

کتاب ہذا میں اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما کر شکریہ ادا کرنے کا موقع فراہم کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں درستگی کی جا سکے۔ شکریہ

Scanned with CamScanner

درود شریف

درود شریف کی بے شمار فضیلتیں ہیں پڑھنے کا یہ طریقہ ہے جمعہ کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک سو ایک بار پڑھیں چند جمعہ بھی نہ گزرنے پائیں گے کہ اس کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے یہ بات تجربہ سے ثابت ہوئی ہے کہ پڑھنے والے بے سرو سامانی کے باوجود حج بیت اللہ و زیارت حبیب اللہ صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مشرف ہوئے۔

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلوٰةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

گذارش

الحمد للہ میں نے اس کتاب " روحانی عملیات و تعویذات عظیمی " کو بڑی عمیق تحقیق و تصحیح کے بعد مرتب کیا ہے جو عوام الناس کے لیے موجودہ حالات کے پیش نظر کامل رہنمائی کرے اور اُن کے مقاصد کو پورا کرے گی۔ اس کتاب میں صرف وہی عملیات درج کیے گئے ہیں جو صدیوں پہلے اولیائے کرام کے مجرب اور آزمودہ اوراد تھے ساتھ ساتھ ہی پوری ترکیب بھی لکھ دی گئی ہے تاکہ شائقین کو عمل شروع کرتے وقت کوئی دقت پیش نہ آئے اور وہ یہ کتاب پڑھ کر خود اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔

اس کتاب میں مسلمانوں کی موجودہ اقتصادی تباہی کا خاص طور پر لحاظ رکھتے ہوئے خاصی تعداد میں عملیات اور وظائف درج کر دیے گئے ہیں تاکہ کسی

کسی ضرورت مند کو کوئی دقت پیش نہ آئے
اس کتاب کے تمام وظائف قرآن و حدیث
سے ماخوذ ہیں اور تعویذات اولیائے کرام کے فرمودات
ہیں اس لیے ان کی صداقت و صحت میں کسی قسم کا شعبہ
دل میں لانا اقتضائے ایمان کے خلاف ہے۔ اور جو
لوگ وظائف و عملیات کے قائل نہیں یا اس کے روحانی اور
ظاہری اثرات کے منکر ہیں ان حضرات سے میری استدعا
ہے کہ اپنے کسی جائز مقصد کے لیے اس کتاب میں سے کوئی
وظیفہ یا تعویذ شروع کر کے تجربہ اور قدرت کاملہ کا بے شک مشاہدہ
کرے۔ بمصداق ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔

نوٹ: ہماری طرف سے ان حضرات کو اجازت ہے جو
اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائیں۔

(اجازت نیک بندوں کیلئے)

خادم ـــ محمد اسلم نقشبندی مجددی

۱	زیارت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم	۲۱
۲	حزب البحر فضائل	۲۲
۳	اعتصام حزب البحر	۲۶
۴	دعائے حزب البحر	۲۷
۵	برائے آفات	۳۲
۶	دفع جنات	۳۹
۷	طریقۂ ذکر اسم ذات	۴۶
۸	مراقبہ مجددیہ	۴۷
۹	مراقبات مشارب	۴۹
۱۰	مقالید السموات والارض	۵۸
۱۱	آفتوں سے بچنے کا وظیفہ	۶۰
۱۲	پیارا وظیفہ	۶۱
۱۳	اسلام پر خاتمہ ہونا	۶۲
۱۴	ظالموں سے نجات	۶۲
۱۵	طلب صبر اور انجام بخیر کے لیے	۶۳
۱۶	رحم اور مغفرت کے لیے	۶۳

۱۷ جنت میں جانے کے لیے ۶۳
۱۸ استقامت اور رحمت ۶۴
۱۹ دین و دنیا کی خیر و برکت کے لیے ۶۴
۲۰ بچے کی مرض اور شر سے بچنے کے لیے ۶۵
۲۱ روزانہ کے معاملات ۶۶
۲۲ شفا یاب ہونے پر ۷۸
۲۳ زبان میں لکنت ۷۸
۲۴ اسماء الحسنیٰ جل شانہٗ ۸۰
۲۵ اسمائے مبارکہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم ۱۳۶
۲۶ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۱۴۹
۲۷ حاجت روائی ۱۵۰
۲۸ ظالم کے دل میں ہیبت ۱۵۰
۲۹ امیر و کبیر ہو جانا ۱۵۱
۳۰ ذریعہ خواب اسرار منکشف ۱۵۱
۳۱ مخلوق کی نظر میں وقار ۱۵۱
۳۲ تسخیرِ نظر ۱۵۲

۳۳ کشفِ قلوب ۱۵۳
۳۴ مشرف بہ زیارت بزرگانِ دین ۱۵۴
۳۵ کسی مقدمہ میں ماخوذ ہو جانا ۱۵۵
۳۶ سورہ یٰس شریف ۱۵۶
۳۷ فریفتگی محبت ۱۵۷
۳۸ مطلوب کا خود بخود قربان ہونا ۱۵۸
۳۹ دستِ غیب با امداد خداوندی ۱۵۹
۴۰ وہ عمل یہ ہے ۱۵۹
۴۱ بعد نماز عشاء غیبی امداد ۱۶۰
۴۲ سحرِ خلائق ۱۶۱
۴۳ وسعتِ رزق ۱۶۲
۴۴ ہزاروں کام کا جائز منتر ۱۶۳
۴۵ پُر تاثیر نقش برائے شفا امراض ۱۶۴
۴۶ تیر بہدف عمل حاجات دینی و دنیاوی ۱۶۵
۴۷ عشق اوّل دَر دلِ معشوق ۱۶۵
۴۸ ترقی تنخواہ کا سریع الاثر عمل ۱۶۶

۴۹	تسخیر محبوب کا شرطیہ	۱۶۷
۵۰	سبحان اللہ کیا برقی طلسم	۱۶۹
۵۱	ایک غضب کا عمل	۱۷۰
۵۲	ملازمت کا بہترین عمل	۱۷۲
۵۳	رحمت خداوندی	۱۷۳
۵۴	بدمزاج عورت کی درستی	۱۷۴
۵۵	زہر خورانی کا دفعیہ	۱۷۵
۵۶	خوش اسلوبی سے ہر کام پورا	۱۷۵
۵۷	فتوحات غیبی	۱۷۶
۵۸	جنت میں باغ لگانا	۱۷۷
۵۹	سفر بخیر و خوبی گزرے	۱۷۸
۶۰	سفر میں مطلق تھکان	۱۷۹
۶۱	سخت سے سخت مشکل آسان	۱۸۰
۶۲	نشہ کی عادت ختم	۱۸۱
۶۳	اعداد نکالنے کا طریقہ	۱۸۲
۶۴	درندہ جانور کے حملہ سے محفوظ	۱۸۳

۶۵	اولاد سے مایوسی	۱۸۴
۶۶	کیسا ہی سخت مرض ہو شفا ہو	۱۸۴
۶۷	جنات کا اتار دینا	۱۸۵
۶۸	بصارت میں کمی نہ ہونا	۱۸۶
۶۹	کسی کی جانب سے برائی نہ دیکھنا	۱۸۶
۷۰	شدید ظالم کو شہر سے باہر نکال	۱۸۷
۷۱	فقیر سے غنی اور بے گمان رزق	۱۸۸
۷۲	امرا حکام اور عوام کی نظر میں	۱۸۹
۷۳	ایک عجیب راز	۱۸۹
۷۴	بغض عداوت نااتفاقی	۱۹۰
۷۵	نہایت مؤثر اور مجرب عمل	۱۹۱
۷۶	دفینہ کا خواب میں معلوم کرنا	۱۹۲
۷۷	برائی حفاظت	۱۹۳
۷۸	خوف اعدا سے حفاظت	۱۹۴
۷۹	سجدہ کے فوائد	۱۹۴
۸۰	بچوں کا زندہ نہ رہنا	۱۹۵

۸۱	انصرام منگنی و انتظام شادی	۱۹۶
۸۲	غم تکلیف صدمہ امید حاجت	۱۹۸
۸۳	لاکھوں نیکیاں پیدا کرنا	۱۹۸
۸۴	محبوب خلائق فریفتہ محبت	۱۹۹
۸۵	حضورؐ کی زیارت سے مشرف ہونا	۲۰۰
۸۶	انکساری عزت بڑھ جانا	۲۰۱
۸۷	سخت سے سخت جادو دور	۲۰۱
۸۸	مردوں سے بات چیت کرنا	۲۰۲
۸۹	بھوک پیاس غائب	۲۰۵
۹۰	اعانت اور حفاظت	۲۰۶
۹۱	مفرور کا واپس آجانا	۲۰۶
۹۲	فوائد آیت الکرسی	۲۰۷
۹۳	نیا رزق مسخر قلب اور غلبہ دشمن	۲۰۸
۹۴	برائے رحم	۲۱۰
۹۵	برائے فاتح	۲۱۰
۹۶	ہر دلعزیز رہنا	۲۱۱

۹۷	اضطراب قلب	۲۱۲
۹۸	مقدمہ کی شہادت بگاڑ دینا	۲۱۳
۹۹	اپنے عیوب کی اصلاح	۲۱۴
۱۰۰	پریشانی کا دفعیہ	۲۱۵
۱۰۱	پھانسی کا حکم تبدیل	۲۱۶
۱۰۲	عام مخلوق میں محبوب	۲۱۷
۱۰۳	ملازمت مل جانا	۲۱۸
۱۰۴	حروف مقطعات	۲۱۹
۱۰۵	حروف نورانی	۲۲۰
۱۰۶	دشمن کی ایذا سے محفوظ	۲۲۱
۱۰۷	استخارہ کرنا	۲۲۱
۱۰۸	گناہوں کا کفارہ	۲۲۳
۱۰۹	حاکم کا مہربان ہونا	۲۲۳
۱۱۰	دشمن کے واسطے سفلی عمل	۲۲۵
۱۱۱	ہر نماز کے بعد وظیفہ	۲۲۶
۱۱۲	ہر مشکل کے لیے نقش	۲۲۷

Scanned with CamScanner

۱۱۳	حسب منشا شادی	۲۳۱
۱۱۴	میاں بیوی کا اختلاف	۲۳۲
۱۱۵	شادی میں رکاوٹ	۲۳۲
۱۱۶	اپیل میں کامیابی	۲۳۳
۱۱۷	گناہوں سے نفرت	۲۳۳
۱۱۸	ایکسیڈنٹ سے حفاظت	۲۳۳
۱۱۹	گھر میں خیر و برکت	۲۳۴
۱۲۰	بنجر زمین کے لیے	۲۳۵
۱۲۱	دل کی فرحت	۲۳۵
۱۲۲	مقدمہ میں کامیابی	۲۳۶
۱۲۳	کاروبار میں ترقی	۲۳۷
۱۲۴	آنکھوں میں روشنی	۲۳۸
۱۲۵	آسیب سے نجات	۲۳۹
۱۲۶	نقش برائے عداوت دشمنی	۲۴۱
۱۲۷	〃 برائے پاگل کتے کاٹے	۲۴۲
۱۲۸	〃 برائے اسقاط حمل	۲۴۳

۱۲۹	نقش برائے حب	۲۴۴
۱۳۰	〃 کسی کو بے قرار کرنا	۲۴۷
۱۳۱	〃 برائے دشمن کی ہلاکت	۲۴۷
۱۳۲	〃 برائے جدائی	۲۴۸
۱۳۳	〃 دشمن کو ذلیل کرنا	۲۴۸
۱۳۴	〃 بچے کا رونا ضد کرنا	۲۵۰
۱۳۵	〃 کسی کا محتاج نہ ہوگا	۲۵۱
۱۳۶	〃 برائے کشادہ رزق	۲۵۲
۱۳۷	〃 آفتوں سے بچنا	۲۵۳
۱۳۸	〃 میاں بیوی کی ناچاقی	۲۵۴
۱۳۹	〃 برائے عزیز خلائق	۲۵۴
۱۴۰	〃 محبوب کو دیوانہ کرنا	۲۵۵
۱۴۱	〃 شوہر کو مطیع کرنا	۲۵۶
۱۴۲	〃 مطلوب کو بے قرار کرنا	۲۵۶
۱۴۳	〃 برائے حب الانسان	۲۵۷
۱۴۴	〃 برائے حمل قرار پانا	۲۵۸

۱۴۵	” برائے مسان	۲۵۸
۱۴۶	” آدھے سر کا درد	۲۵۹
۱۴۷	” استقرار حمل	۲۶۰
۱۴۸	” برائے اٹھرا	۲۶۱
۱۴۹	” برائے مرگی	۲۶۱
۱۵۰	نقش بچہ کی پسلی کے لیے	۲۶۲
۱۵۱	” بواسیر کے لیے	۲۶۳
۱۵۲	” ناف کا ٹل جانا	۲۶۴
۱۵۳	” تلی کا بڑھ جانا	۲۶۴
۱۵۴	” دشمن پر غالب ہونا	۲۶۵
۱۵۵	” باندھنے عورت	۲۶۶
۱۵۶	” زمت کی بحالی	۲۶۷
۱۵۷	” رشتوں کی کامیابی کے لیے	۲۶۸
۱۵۸	” بغض و عداوت کے لیے	۲۷۳
۱۵۹	” برائے زبان بندی	۲۷۵
۱۶۰	” برائے ترقی رزق	۲۷۶

۱۶۱	” برائے ادائیگی قرض	۲۷۸
۱۶۲	” درد برائے شقیقہ	۲۷۸
۱۶۳	نقش درد بدن	۲۸۱
۱۶۴	” ” درد	۲۸۲
۱۶۵	” برائے آسانی پیدائش	۲۸۴
۱۶۶	” بچہ کا رونا	۲۸۵
۱۶۷	” دودھ بڑھانے کے لیے	۲۸۶
۱۶۸	” عورت کے مخصوص ایام	۲۸۷
۱۶۹	” بخار کے لیے	۲۸۸
۱۷۰	” دل کی گھبراہٹ	۲۸۹
۱۷۱	” ڈراؤنے خواب	۲۹۰
۱۷۲	” مرگی والا	۲۹۱
۱۷۳	” چیچک کے لیے	۲۹۳
۱۷۴	” آنکھ نہیں دکھے گی	۲۹۴
۱۷۵	” مکان کی حفاظت	۲۹۵
۱۷۶	” برائے حافظہ	۲۹۵

Scanned with CamScanner

۱۷۷	دکان کی ترقی کے لیے	۲۹۶
۱۷۸	ہر قسم کی جائز حاجات	۲۹۷
۱۷۹	نقش سخت مشکل علاج	۲۹۸
۱۸۰	" برائے پیچش	۲۹۹
۱۸۱	" برائے حاجات	۳۰۰
۱۸۲	" برائے احتلام	۳۰۱
۱۸۳	" بچوں کی دھونی کے لیے	۳۰۲
۱۸۴	" عمل برائے رشتہ	۳۰۳
۱۸۵	" برائے رعشہ	۳۰۳
۱۸۶	" عمل برائے حصول حسن	۳۰۴
۱۸۷	" برائے دفع بلغم	۳۰۵
۱۸۸	" ہر کام کے لیے	۳۰۵
۱۸۹	" عورت کا بانجھ پن	۳۰۶
۱۹۰	" خاتمہ بالخیر	۳۰۷
۱۹۱	" زہریلے جانور کا اثر	۳۰۷
۱۹۲	" نافرمان کے لیے	۳۰۹

۱۹۳	نقش برائے تپ	۳۱۰
۱۹۴	" برائے درد مثانہ	۳۱۰
۱۹۵	" کثرت حیض	۳۱۱
۱۹۶	" دردِ زہ	۳۱۱
۱۹۷	" دردِ دل	۳۱۲
۱۹۸	" بلیات سے محفوظ	۳۱۳
۱۹۹	" بد خوابی کے لیے	۳۱۳
۲۰۰	" جلد واپس آوے	۳۱۴
۲۰۱	" بُرے خواب کے لیے	۳۱۶
۲۰۲	" زبان بندی کے لیے	۳۱۷
۲۰۳	" تنگ دستی کا فوری علاج	۳۱۸
۲۰۴	" کشف قبور	۳۲۰
۲۰۵	" نقش طاعون	۳۲۱
۲۰۶	" اگر کسی پر جادو ہو	۳۲۴
۲۰۷	" چور پکڑنا	۳۲۴
۲۰۸	" اُم الصبیان	۳۲۶

Scanned with CamScanner

۲۰۹	مال دار کے لیے تحفہ	۳۲۶
۲۱۰	نقش گلے کے ورم کے لیے	۳۲۷
۲۱۱	" درد جگر کے لیے	۳۲۸
۲۱۲	" خبیث جنات	۳۲۸
۲۱۳	" دفعیہ جموگر	۳۳۱
۲۱۴	" محبت جانی	۳۳۳
۲۱۵	" شفا امراض	۳۳۴
۲۱۶	" سنگرینی	۳۳۵

محمد اسلم خوشنویس

(منصور والی) تحصیل گوجرہ ضلع ٹوبہ

برائے زیارت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ جو شخص جمعرات کو دو رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ۱۱ بار آیۃ الکرسی اور ۱۱ بار سورۂ اخلاص پڑھے پھر نماز کے بعد یہ درود شریف سو مرتبہ پڑھے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدِ نِ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَاٰلِہٖ وَسَلِّمْ

وہ خواب میں حضور اکرم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اگر پہلی بار شرف یاب نہ ہو تو تین جمعوں تک یہ عمل مسلسل کرنے سے انشاء اللہ تعالےٰ اسے حضورؐ کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔

۲۔ جو شخص جمعرات کو دو رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ۲۵ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد یہ درود شریف ایک ہزار مرتبہ پڑھے

صَلَّی اللّٰہُ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ ط

وہ انشاء اللہ خواب میں جناب سرورِ کونین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

دیدار سے مشرف ہوگا۔

(جذب القلوب الی دیار المحبوب مولفہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی)

حزبُ البحرُ (فضائل)

حضرت سید ابوالحسن الشاذلی قدس سرہٗ بحری جہاز میں سوار ہوکر حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک سمندر میں طغیانی آگئی اور جہاز پر سوار تمام مسافروں پر مایوسی چھاگئی۔ اسی عالم میں آپ کو مراقبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے یہ دعا بتائی جسے سید ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی پڑھا اور دوسرے مسافروں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ اس دعا کی برکت سے سمندر پرسکون ہوگیا اور ہوا موافق چلنے لگی جس سے تمام مسافر اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ جہاز کا نصرانی کپتان اور دوسرے مذاہب والے اشخاص یہ کرامت دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہوگئے۔

حزب البحر کی تمام دعائیں ماثورہ ہیں۔ جن کا احادیث سے ثبوت ملتا ہے۔ خود شیخ ابوالحسنؒ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم یہ الفاظ میرے

نہیں بلکہ حرف بہ حرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ارشاد کردہ ہیں۔

بعد نماز فجر و مغرب جملہ مقاصد کے لیے پڑھنا نہایت مفید و مجرب ہے۔

دعائے حزب البحر تمام دینی و دنیوی حاجات کے واسطے نہایت مجرب اور اکسیر ہے جس مطلب کے واسطے چاہے تین رات دن متواتر بلحاظ شرائط پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ تمام مشکلات آسان ہوجائیں گی۔ مگر جس مطلب کے واسطے پڑھے اسی مضمون کے فقرہ پر خیال کرکے پڑھتے وقت اسی کا تصور کرکے تکرار کرے۔ چنانچہ ذیل میں چند ترکیبیں اس کے متعلق درج ہوتی ہیں

۱- حلِ مشکلات

حلِ مشکلات کے واسطے پڑھنے کا طریقہ۔ اگر کوئی سخت مشکل آن پڑے اور حالت اضطراری لاحق ہوجائے چاہیئے کہ بمقام خلوت بعد نماز عصر کے بلا کلام اس دعا کو بلا قید تعداد کے نماز مغرب تک پڑھے اور جب مغرب کی اذان ہو سجدہ کرے اور سجدہ میں اپنی حاجت طلب کرے اور جب اَللّٰھُمَّ یَسِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا پر پہنچے تو اس جملہ کو گیارہ بار تکرار کرکے

Scanned with CamScanner

اور مطلب ذہن میں رکھ کر گیارہ بار پڑھے یَا مُيَسِّرَ كُلِّ عَسِيْرٍ اسی طرح تین روز تک متواتر عمل کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ مشکل حل ہو جائے گی اور اس کی اجازت عام ہے۔

۲- شفائے مریض

شفائے مریض کے واسطے پڑھنے کا طریقہ: اگر کوئی مریض کسی علاج سے اچھا نہ ہو سکے تو چاہیئے کہ ہر روز گیارہ بار پڑھے لیکن جب بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ الخ پر پہنچے تو ستر بار یہ پڑھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ط انشاء اللہ العزیز تھوڑے ہی دنوں میں صحت کلی ہو جائے گی اور اس کی اجازت عام ہے

۳- محبت اور تسخیر خلایق

محبت اور تسخیر خلایق کے واسطے اس کو ہر روز گیارہ بار پڑھنا چاہیئے اور سَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ پر تصور حل مطلب کا برابر رہے اور اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ کے بعد یَا عَزِيْزُ عَزِّزْنِيْ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ ایک سو پانچ بار پڑھے انشاء اللہ تھوڑے ہی دنوں میں مراد بر آئے گی۔

اجازت شرط عام ہے۔

۴- ادائے قرضہ اور دفع فقر وفاقہ کے واسطے

پڑھنے کا طریقہ: اگر کوئی شخص قرض میں غرقاب ہو اور فقر وفاقہ میں مبتلا ہو تو اسے چاہیئے کہ ایک وقت خاص کر کے اس وقت متواتر تین روز تک یہ دعا ہر روز سات بار پڑھے جب وَارْزُقْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ط پر پہنچے تو گیارہ بار اس جملہ کو تکرار کر کے اور ستر بار یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

انشاء اللہ العزیز تھوڑے ہی عرصہ میں قرض سے رہائی اور کشائش رزق ہو جائے گی لیکن اجازت شرط ہے۔

۵- دشمنوں کی ہلاکت اور زبان بندی کے واسطے

پڑھنے کا طریقہ: ہر روز اکیس بار جب وَاطْمِسْ عَلٰى وُجُوْهِ اَعْدَآئِنَا پر پہنچے تو ۴۱ بار یہ پڑھے

يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيْدِ اَنْتَ الَّذِيْ لَا يُطَاقُ

اِنْتِقَامُهٗ یَا قَاهِرُ اور ختمِ ششم کے ادعیہ مقہوری اعدا بھی ضرور پڑھے انشاء اللہ العزیز ایک ہی چلّہ میں دشمن ہلاک ہو جائے گا اور اس متبرک حزب کے پڑھنے والے پر لازم ہے کہ ہمیشہ پابند صوم و صلوٰۃ رہ کر باوضو نہایت عاجزی و اخلاصِ قلبی سے اس کا ورد بلاناغہ روزانہ رکھے۔ اس کے یمن و برکت سے جملہ مرادیں حاصل ہوں گی اور دارِ عقبیٰ کے واسطے بھی یہ بہترین زادِ راہ و توشہ ہے۔

اِعْتِصَامِ حزبُ البحر

اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰهِ الْفَتَّاحِ الْقَابِضِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ
الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَّفْسِیْ وَسَمْعِیْ
وَبَصَرِیْ وَاَهْلِیْ وَمَالِیْ وَمِنَ الْمَاۗءِ الْبَارِدِ لِلْعَطْشَانِ
(تین بار) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓی اٰلِ سَیِّدِنَا
مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ مِّائَةَ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ (ستّر بار)

*

دُعائے حزبُ البحر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَا اَللّٰهُ یَا اَللّٰهُ یَا عَلِیُّ یَا عَظِیْمُ یَا حَلِیْمُ یَا عَلِیْمُ
اَنْتَ رَبِّیْ وَعِلْمُكَ حَسْبِیْ فَنِعْمَ الرَّبُّ رَبِّیْ وَنِعْمَ
الْحَسْبُ حَسْبِیْ تَنْصُرُ مَنْ تَشَاۗءُ وَاَنْتَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ
نَسْئَلُكَ الْعِصْمَةَ فِی الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْكَلِمَاتِ
وَالْاِرَادَاتِ وَالْخَطَرَاتِ مِنَ الشُّكُوْكِ وَالظُّنُوْنِ
وَالْاَوْهَامِ السَّاتِرَةِ لِلْقُلُوْبِ عَنْ مُّطَالَعَةِ الْغُیُوْبِ
فَقَدِ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِیْدًا وَّ
اِذْ یَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ
مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا غُرُوْرًا فَثَبِّتْنَا وَ
انْصُرْنَا وَسَخِّرْ لَنَا هٰذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ
لِمُوْسٰی عَلَیْهِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ النَّارَ لِاِبْرَاهِیْمَ

عَلَیْہِ السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ الْحَدِیْدَ لِدَاوٗدَ عَلَیْہِ
السَّلَامُ وَسَخَّرْتَ الرِّیْحَ وَالشَّیٰطِیْنَ وَالْجِنَّ لِسُلَیْمٰنَ
عَلَیْہِ السَّلَامُ وَسَخِّرْ لَنَا کُلَّ بَحْرٍ ھُوَ لَکَ فِی
الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَالْمُلْکِ وَالْمَلَکُوْتِ وَبَحْرَ الدُّنْیَا
وَبَحْرَ الْاٰخِرَۃِ وَسَخِّرْ لَنَا کُلَّ شَیْءٍ یَّا مَنْ بِیَدِہٖ
مَلَکُوْتُ کُلِّ شَیْءٍ ○ اس کے بعد تین مرتبہ کٓھٰیٰعٓصٓ
پڑھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کرنی شروع کرے ک پر خنصر ھ
پر بنصر ی پر وسطیٰ ع پر سبابہ ص پر ابہام۔ دوسری مرتبہ کھولنی شروع
کرے اور سب سے پہلے ک پر ابہام کو کھولے ھ پر سبابہ ی پر وسطیٰ ع
پر بنصر اور ص پر خنصر پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بترتیب بالا انگلیاں بند کرے
اُنْصُرْنَا فَاِنَّکَ خَیْرُ النّٰصِرِیْنَ پر ابہام کھولے۔ وَافْتَحْ
لَنَا فَاِنَّکَ خَیْرُ الْفَاتِحِیْنَ پر سبابہ کھولے، وَاغْفِرْلَنَا
فَاِنَّکَ خَیْرُ الْغَافِرِیْنَ پر وسطیٰ کھولے وَارْحَمْنَا فَاِنَّکَ
خَیْرُ الرّٰحِمِیْنَ پر بنصر کھولے۔ وَارْزُقْنَا فَاِنَّکَ خَیْرُ
الرّٰزِقِیْنَ پر خنصر کھولے وَاھْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ
الظّٰلِمِیْنَ وَھَبْ لَنَا رِیْحًا طَیِّبَۃً کَمَا ھِیَ فِیْ

عِلْمِکَ وَانْشُرْھَا عَلَیْنَا مِنْ خَزَآئِنِ رَحْمَتِکَ وَاحْمِلْنَا
بِھَا حَمْلَ الْکَرَامَۃِ مَعَ السَّلَامَۃِ وَالْعَافِیَۃِ فِی
الدِّیْنِ وَالدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
قَدِیْرٌ ○ اَللّٰھُمَّ یَسِّرْلَنَا اُمُوْرَنَا مَعَ الرَّاحَۃِ لِقُلُوْبِنَا
وَاَبْدَانِنَا وَالسَّلَامَۃِ وَالْعَافِیَۃِ فِیْ دِیْنِنَا وَدُنْیَانَا
وَکُنْ لَّنَا صَاحِبًا فِیْ سَفَرِنَا وَخَلِیْفَۃً فِیْ اَھْلِنَا
وَاطْمِسْ عَلٰی وُجُوْہِ اَعْدَآئِنَا وَامْسَخْھُمْ عَلٰی مَکَانَتِھِمْ
فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ الْمُضِیَّ وَلَا الْمَجِیْٓءَ اِلَیْنَا وَلَوْ
نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓی اَعْیُنِھِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰی
یُبْصِرُوْنَ ○ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنٰھُمْ عَلٰی مَکَانَتِھِمْ
فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِیًّا وَّلَا یَرْجِعُوْنَ ○ یٰسٓ ○ وَالْقُرْاٰنِ
الْحَکِیْمِ ○ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ ○ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ○
تَنْزِیْلَ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ○ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ
اٰبَآؤُھُمْ فَھُمْ غٰفِلُوْنَ ○ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓی اَکْثَرِھِمْ
فَھُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ○ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِھِمْ اَغْلٰلًا فَھِیَ

Scanned with CamScanner

برائے آفات وسحر وغیرہ

درود شریف ۳ بار، سورہ فاتحہ مع بسم اللہ ۷ بار، آیۃ الکرسی ۷ بار، ہر چہار قل ۷ بار۔

ان تمام کلمات مبارکہ کو ۷ بار پڑھ کر اپنے اوپر اور دوسرے مریضوں پر دم کر دیں۔ انشاء اللہ ہر قسم کی آفات وامراض سے نجات نصیب ہوگی رہائش گاہ اور دوسرے احاطوں پر بھی پڑھ کر دم کریں۔ بفضلہ تعالیٰ جملہ مصائب وآلام اور ہر گونہ فتنہ وشر سے محفوظ ومصئون رہیں گے۔

برائے دفع شیاطین وحوادث دیگر

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱۔ الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝
۲۔ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ ۳۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝
۴۔ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
۵۔ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ
وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ
يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ ۶۔ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ
تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۤ لَا
انْفِصَامَ لَهَا ۭ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ ۷۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ

فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ
تَكْبِيْرًا ۝ ١٥ - وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝ ١٦ - فَالزّٰجِرٰتِ
زَجْرًا ۝ (١٧) فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝ ١٨ - إِنَّ إِلٰهَكُمْ
لَوَاحِدٌ ۝ ١٩ - رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ ٢٠ - إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ
الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ ۨالْكَوَاكِبِ ۝ ٢١ - وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ
شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝ ٢٢ - لَا يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلٰى
وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ ٢٣ - دُحُوْرًا وَّلَهُمْ
عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ ٢٤ - إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهٗ
شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ ٢٥ - فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا
أَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ط إِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝ ٢٦
يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا
مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ
إِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ ٢٧ - فَبِأَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ ٢٨ -
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا

تَنْتَصِرٰنِ ۝ ٢٩ - لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ
لَّرَأَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ ٣٠
هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ ج هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ ٣١ - هُوَ اللّٰهُ
الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ج اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ
اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ٣٢ - هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ٣٣
قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا
إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ يَّهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا
بِهٖ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝ وَّأَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ
رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ وَّأَنَّهٗ كَانَ
يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝ قُلْ يَآ أَيُّهَا

Scanned with CamScanner

الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝
وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ
دِيْنِ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ
وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ
شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي
الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝
قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ
النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِيْ
يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

حضرت شاہ احمد سعید صاحب مدنی قدس سرہٗ الاقدس فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک بار صبح کی نماز کے بعد اور ایک بار مغرب کی نماز کے بعد یہ ۳۳ آیات پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت و امان میں

رہے گا۔ بحکم الٰہی اس پر زہر اور بددعا کا اثر نہیں ہوگا۔ شیاطین اور دشمنوں کے شر سے محفوظ و مامون رہے گا۔ (مناقب شریف)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تینتیس آیتیں مع سورہ فاتحہ و چہار قل ردِّ سحر میں بے حد نفع بخش ہیں شیاطین، چوروں اور درندوں سے پناہ ہو جاتی ہے۔

(القول الجمیل)

دفعِ امراض وسحر کے لیے پانی پر دم کرکے پئیں۔

برائے دفع جنّ و جنوں

اگر کسی پر جنّ و آسیب کا اثر ہو یا دماغ خراب ہوگیا ہو تو اس کو سامنے بٹھا کر اس پر یہ آیتیں پڑھ کر دم کریں۔

۱۔ سورہ فاتحہ (الحمد شریف)

الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ سے اَلْمُفْلِحُوْنَ تک (از ۱ تا ۵)

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

آیۃ الکرسی الْعَظِيْمُ تک

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ سے عَلَى الْقَوْمِ

الکٰفِرِیْنَ تک (از ۱۸ تا ۲۰) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۙ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
سے رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ تک ۵۴ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ
لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ
لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ○ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ
خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ○ وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○ وَالصّٰٓفّٰتِ سے لَازِبٍ تک (۱۵ تا
۲۵) هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سے الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
تک (۲۳ تا ۲۴) پھر سورہ اخلاص، سورۂ فلق اور سورۂ ناس، انشاءاللہ
تعالےٰ مریض آسیب جن تندرست ہو جائے گا (سنن ابن ماجہ، مسند احمد)
مندرجہ بالا وظیفہ صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالےٰ
دشمنوں اور چوروں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، بلاؤں سخت بیماریوں
اور آفتوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ کنزالعمال، شرح سفرالسعادہ)

۲۔ صبح کی نماز کے بعد تین بار پڑھے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

وَبِحَمْدِهٖ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ
جذام، جنون، نابینائی اور فالج کی بیماریوں سے اللہ تعالےٰ
محفوظ رکھے گا۔ (ابن السنی)

۳۔ يَا سَلَامُ ۱۰۰ بار
يَا شَافِيْ ۱۰۰ بار
يَا حَيُّ ۱۰۰ بار

پڑھ کر اس درودِ شفا کو جو شخص تین بار پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ
اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا
بحالتِ مرض ۳۱۳ بار یومیہ اگر پڑھے گا تو اللہ تعالےٰ اس بیماری
سے شفا دے گا۔

درودِ شفا یہ ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوْبِ وَدَوَآئِهَا وَعَافِيَةِ الْاَبْدَانِ
وَشِفَآئِهَا وَنُوْرِ الْاَبْصَارِ وَضِيَآئِهَا وَكَشْفِ الْاَحْزَانِ
وَجِلَآئِهَا وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ ○

۵۔ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ

رَّحِیۡمٌ ۞ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَقُلۡ حَسۡبِیَ اللّٰہُ ۫ۖ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡہِ تَوَکَّلۡتُ وَهُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ۞

ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھے۔ سلامتی و عنایتِ نبوی شاملِ حال رہے (منقول از حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ) پڑھنے والا اس دن زندہ رہے گا نہ مقتول ہوگا نہ مضروب ہوگا۔ (حرزِ سنوسی)

۵۔ اگر کسی کو فکر و رنج، ہم و حزن لاحق ہو اور یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر کو دفع کرے گا اور خوشی و فرحت عنایت فرمائے گا (مسندِ احمد)

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ عَبۡدُكَ وَابۡنُ عَبۡدِكَ وَابۡنُ اَمَتِكَ نَاصِیَتِیۡ بِیَدِكَ عَدۡلٌ فِیَّ قَضَآؤُكَ اَسۡاَلُكَ بِكُلِّ اسۡمٍ هُوَ لَكَ سَمَّیۡتَ بِهٖ نَفۡسَكَ اَوۡ اَنۡزَلۡتَهٗ فِیۡ كِتَابِكَ اَوۡ عَلَّمۡتَهٗ اَحَدًا مِّنۡ خَلۡقِكَ اَوِ اسۡتَاۡثَرۡتَ بِهٖ فِیۡ عِلۡمِ الۡغَیۡبِ عِنۡدَكَ اَنۡ تَجۡعَلَ الۡقُرۡاٰنَ الۡعَظِیۡمَ رَبِیۡعَ قَلۡبِیۡ وَنُوۡرَ صَدۡرِیۡ وَجِلَآءَ حُزۡنِیۡ وَذَهَابَ هَمِّیۡ

۶۔ حَسۡبِیَ اللّٰہُ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیۡہِ تَوَکَّلۡتُ

وَهُوَ رَبُّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ ۞ جو شخص ہر روز صبح اور شام سات بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے جملہ امور کو کافی ہوگا۔ اس کے سب کام بن جائیں گے۔

(ابن داؤد، ابن السنی)

۷۔ اگر کوئی قرض دار ہر نماز کے بعد ۲۵ بار اور عشاء کے بعد ۲۵ بار یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔

اَللّٰهُمَّ اكۡفِنِیۡ بِحَلَالِكَ عَنۡ حَرَامِكَ وَاَغۡنِنِیۡ بِفَضۡلِكَ عَمَّنۡ سِوَاكَ (مسندِ احمد، ترمذی)

۸۔ جو شخص سورۂ یٰسٓ صبح کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا، شام کو پڑھے تو اس کی بخشش ہو۔

سورہ واقعہ بعد مغرب پڑھے تو کبھی فاقہ میں مبتلا نہ ہو۔

سورہ ملک رات کو پڑھے تو عذابِ قبر سے نجات ہو۔ (ترمذی)

۹۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، وہ یَا حَفِیۡظُ ۱۱۹ بار پڑھ کر یہ آیت ۱۱۹ بار پڑھے۔ اللہ کی مہربانی سے گم شدہ چیز اسے مل جائے گی۔ (القول الجمیل)

یٰبُنَیَّ اِنَّهَاۤ اِنۡ تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ فَتَكُنۡ فِیۡ صَخۡرَةٍ اَوۡ فِی السَّمٰوٰتِ اَوۡ فِی الۡاَرۡضِ یَاۡتِ

بِهَا اللّٰہُ ۔

۱۱۔ اگر بدن میں کہیں درد ہو تو درد کی جگہ داہنا ہاتھ رکھ کر بِسْمِ اللّٰہِ تین مرتبہ اور اَعُوْذُ بِاللّٰہِ وَقُدْرَتِہٖ مِنْ شَرِّ مَآ اَجِدُ وَ اُحَاذِرُ ۷ بار پڑھے۔ (صحیح مسلم)

۱۲۔ بخار اور درد کے لیے یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الْکَبِیْرِ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ۔ ابن السنی

۱۳۔ سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ یہ وظیفہ اگر بوقت سحر ۱۰۱ بار پڑھے تو اللہ تعالےٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور روزی میں برکت اور فراخی بخشے گا۔

وظیفۃ السالکین حضور پیر دستگیر حضرت صاحبؒ

۱۴۔ اگر کہیں زخم ہو تو شہادت کی انگلی پر اپنا تھوک لگائے پھر مٹی پر رکھ کر موضع زخم پر رکھے اور یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰہِ تُرْبَۃُ اَرْضِنَا بِرِیْقَۃِ بَعْضِنَا لِیُشْفٰی سَقِیْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا (صحیح مسلم)

۱۵۔ ہر روز ۱۰۰ بار صبح کو یہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ تعالےٰ روزی میں

برکت اور فراخی عنایت فرمائے گا۔ (بیاض محمدی)

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الْمَلِکُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ ج

۱۶۔ جو شخص یومیہ ہزار بار طہارت کے ساتھ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ کہے۔ اس پر اسباب رزق آسان ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر ذکر لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ہے۔ (ترمذی)

۱۷۔ اگر نیند نہ آنے کی شکایت ہو یا سونے میں ڈر جائے تو سوتے وقت یا ڈرنے کے وقت یہ دُعا پڑھے۔ (مسند احمد)

اَعُوْذُ بِکَلِمٰتِ اللّٰہِ التَّآمَّۃِ مِنْ غَضَبِہٖ وَشَرِّ عِبَادِہٖ وَمِنْ ھَمَزٰتِ الشَّیٰطِیْنِ وَاَنْ یَّحْضُرُوْنِ ۝

۱۸۔ مریض پر سات مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ اَسْاَلُ اللّٰہَ الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنْ یَّشْفِیَکَ ۝ اگر موت مقدر نہ ہو تو اللہ تعالےٰ ضرور شفا دے گا۔ (ابوداؤد، ترمذی)

۱۹۔ یہ درود شریف یومیہ ہزار بار پڑھنا امورِ دنیا و آخرت میں برکت اور فراخی معاش و ترقی رزق کے لیے نہایت مفید و مجرب ہے۔ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ

سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوٰتِكَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِكَ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ ۔

۲۰- جو شخص نمازِ صبح پڑھ کر اس سے قبل کہ کسی سے بات کرے سو بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اسکی سو حاجتیں پوری کرے گا تیس حاجتیں دینوی اور ستر حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا ۔ مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کا یہی فائدہ ہے ۔ (القول البدیع)

طریقۂ ذکرِ اسمِ ذات

استغفار ۲۵ بار، سورۂ فاتحہ مع بسملہ ۱ بار، سورۂ اخلاص مع بسملہ ۳ بار پڑھ کر ان کا ثواب پیرانِ کبار کی ارواحِ مقدسہ کو پہنچائے موت کو حاضر تصور کرے پھر زبان ہلائے بغیر خیال سے دل میں اَللّٰہُ، اَللّٰہُ کہے اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ کی طرف رکھے ۔ اسے وقوف قلبی کہا جاتا ہے اثنائے ذکر ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف سے نزولِ فیض کا بھی خیال رہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد عجز و نیاز کے ساتھ دل میں

کہے ۔ خداوندا مقصودِ من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدہ، یہ باز گشت سے موسوم ہے ۔ وقوفِ قلبی اور بازگشت ذکر کے شرائط میں سے ہیں ۔ باوضو ہونا بے حد مفید ہے مگر شرط نہیں ۔ بوقتِ فرصت، خواہ متعدد مجالس میں ہو، یہ ذکر ۲۴ ہزار بار کرے ۔ یہ شغلِ مبارک تقریباً دو گھنٹے میں ہو جاتا ہے ۔ اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، ذکر کی طرف دھیان لگائے رکھے حتیٰ کہ وہ دل کا وصفِ لازم بن جائے ۔

وَ بِاللّٰہِ التوفیق وھو المستعان

مراقباتِ مجددیہ

مراقبہ کا لغوی مفہوم محافظت ہے مگر اصطلاحِ تصوف میں اس سے مراد جنابِ باری تعالیٰ عز اسمہ سے انتظارِ فیض ہے ۔ مراقبہ دراصل نصِ قرآنی وَفِیْٓ اَنْفُسِکُمْ ط اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ہ کی عملی ہیئت ہے ۔ وہ آیاتِ الٰہیہ جو نفسِ انسانی میں مستور ہیں، ان کے مختلف انوار و لطائف میں مراقبہ ہی امتیاز کرتا ہے ۔ آیت مذکورہ پر مزید غور کیا جائے تو یہ امر بآسانی مفہوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے آگاہی و شہود کا حکم دیا گیا ہے ۔ سالک مراقبہ کی بدولت تمام

Scanned with CamScanner

روحانی مقامات طے کرتا ہے اور اس کے باطن پر انوار و اسرارِ ربانیہ پیہم نازل ہوتے چلے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک عارف کامل درجاتِ عالیہ پر فائز ہونے کے بعد جو کچھ دیکھتا ہے، اپنے اندر ہی دیکھتا ہے۔ قلب سے لاتعیّن تک ساری ولایت جو سیرِ قدمی و سیرِ نظری پر مشتمل ہے اسی سے حصول پذیر ہے اس سے دوامِ حضور میسّر آتا ہے اور سالک کے رگ و پے میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت امامِ ربّانی مجدّد الف ثانی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمارا سلوک خانۂ توحید کو نقب لگانے کے مترادف ہے۔ خلوت و یکسوئی مراقبہ کے لوازم میں سے ہے۔ خلوت سے کیا مراد ہے؟ ملّا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح عین العلم میں اسے یوں بیان کیا ہے۔

ثم القوم مختلفون فی سلوک طریقهم فمنهم[1] من جعل مدار الخلوة علیٰ خلو القلب عن غیر ذکر الرب ومشاهدة الخلق ولو کان فی مجمع الخلق۔

---

[1] پھر لوگوں کا اپنے اپنے سلوکِ طریق میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک خلوت کا دارومدار اس پر ہے کہ دل خلق کے مشاہدے سے فارغ ہو جائے اور اس میں ذکرِ الٰہی کے سوا کوئی چیز جاگزیں نہ رہے اگرچہ مراقبہ کرنے والے کی نشست درجماعت مخلوق کے ساتھ ہو۔

سر کا لپیٹنا اور آنکھوں کا بند کرنا اس وجہ سے ہے کہ سالک اطمینان قلب سے ذاتِ باری تعالےٰ کی طرف متوجہ ہو سکے، اسے خلوتِ صغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ مراقبہ شروع کرتے وقت مبدا رفیض اور موردِ فیض کا لحاظ بے حد ضروری ہے۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نیّتِ مراقبۂ احدیّت

فیض میآید برمن از ذاتے کہ مستجمع جمیع صفاتِ کمال ست و منزّہ از ہر نقص و زوال۔ موردِ فیض لطیفۂ قلبِ من است۔

مراقباتِ مشارب

اوّل مراقبۂ لطیفۂ قلب

لطیفۂ قلب خود را مقابلِ لطیفۂ قلب مبارکہ سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم داشتہ بزبانِ حال التجا کند۔

الٰہی فیضِ تجلّیاتِ افعالیہ کہ از لطیفۂ قلبِ حضرت محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم در لطیفۂ قلب حضرتِ آدم علیہ السلام افاضہ فرمودہ

بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفۂ قلب من القاکن۔

دوم مراقبہ لطیفۂ رُوح

لطیفۂ روحِ خود را مقابلِ لطیفۂ رُوحِ مبارکِ سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم داشتہ بزبانِ حال التجا کند۔

الٰہی فیضِ تجلیاتِ صفاتِ ثبوتیہ کہ از لطیفۂ رُوحِ مبارکِ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم در لطیفۂ رُوحِ حضرتِ نوح و ابراہیم علیہما السلام افاضہ کردہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفۂ روحِ من القاکن۔

سوم مراقبہ لطیفۂ سِرّ

لطیفۂ سِرِ خود را مقابلِ لطیفۂ سِرِ مبارک سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم داشتہ بزبانِ حال التجا کند۔

الٰہی فیضِ تجلیاتِ شیونِ ذاتیہ کہ از لطیفۂ سِرِ مبارکِ آں سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم در لطیفۂ سِرِ حضرت موسےٰ علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفۂ سِرِ من القاکن۔

چہارم مراقبہ لطیفۂ خفی

لطیفۂ خفی خود را مقابلِ لطیفۂ خفی مبارکِ سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم داشتہ بزبانِ حال عرض کند۔

الٰہی فیض صفاتِ سلبیہ کہ از لطیفۂ خفی حضرت محمد رسول اللہ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم در لطیفۂ خفی حضرت عیسےٰ علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفۂ خفی من القاکن۔

پنجم مراقبہ لطیفۂ اخفیٰ

لطیفۂ اخفائے خود را مقابلِ لطیفۂ مبارکِ سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم داشتہ بزبانِ حال عرض کند۔

الٰہی فیضِ تجلیاتِ شانِ جامع کہ در لطیفۂ اخفائے آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام افاضہ فرمودہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفۂ اخفائے من القاکن۔

تنبیہ:۔ باید دانست کہ در ہر مراقبہ لطیفہ را کہ موردِ فیض است ملحوظ داشتہ ہمیں لطیفہ را از ہر یک از حضرتِ مشائخ کرام سلسلہ تا آں سرورِ عالم صلے اللہ علیہ وسلم بمنزلۂ آئینہ ہائے متقابلہ فرض کردہ بطریقِ تعاکس آں فیضِ مخصوص را در لطیفۂ مخصوصہ خود منعکس انگارد تا بمقتضائے اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِیْ بِیْ مامول بحصول انجامد

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ۔

نیّتِ مراقبہ معیّت

مضمونِ کریمہ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ را ملحوظ داشتہ از صمیمِ قلب داند کہ فیض می آید از ذاتیکہ با من است و با ہر ذرّہ از ذرّاتِ کائنات بہ ہماں شان کہ مرادِ اوست تعالیٰ منشاءِ فیض دائرہ ولایتِ صغریٰ است کہ ولایت اولیائے عظام و ظلِّ اسماء و صفاتِ مقدسہ است، موردِ فیض لطیفۂ قلبِ من۔

نیّتِ مراقباتِ ولایتِ کبریٰ

و آں مشتمل بر سہ دائرہ و یک قوس، نیّت دائرۂ اولیٰ مضمونِ آیتِ کریمہ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ، ملحوظ داشتہ از روئے باطن داند کہ فیض می آید از ذاتیکہ قرب تر است بمن از رگِ جانِ من بہ ہماں شان کہ مرادِ حق است سبحانہ، موردِ فیض لطیفۂ نفس و لطائفِ خمسۂ عالمِ امرِ من است، منشاءِ فیض دائرہ اولیٰ ولایتِ کبریٰ است کہ ولایتِ انبیائے عظام و اصلِ دائرۂ ولایتِ صغریٰ است۔

دائرۂ ثانیہ ولایتِ کبریٰ

مضمونِ کریمہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ را ملحوظ داشتہ در خاطر بگذراند کہ فیض می آید از ذاتیکہ مرا دوست میدارد و من او را دوست میدارم منشاءِ فیض دائرۂ ثانیہ ولایتِ کبریٰ است کہ ولایتِ انبیائے عظام و اصلِ دائرہ اولیٰ است موردِ فیض لطیفۂ نفسِ من است۔

دائرۂ ثالثہ ولایتِ کبریٰ

مضمونِ کریمہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ را ملحوظ داشتہ در خیال آرد کہ فیض می آید از ذاتیکہ مرا دوست میدارد و من او را دوست میدارم منشاءِ فیض دائرۂ ثالثہ ولایتِ کبریٰ است کہ ولایتِ انبیاء علیہم السلام و اصلِ دائرۂ ثانیہ است موردِ فیض لطیفۂ نفسِ من است۔

قوس

مضمونِ کریمہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ را ملحوظ داشتہ در دل بگذراند کہ فیض می آید از ذاتیکہ مرا دوست میدارد و من او را دوست میدارم منشاءِ فیض قوسِ ولایتِ کبریٰ است کہ اصل دائرۂ ثالثہ است،

Scanned with CamScanner

مورد فیض لطیفۂ نفس من است۔

مراقبہ اسم الظّاہر

فیض می آید از ذاتیکہ مسمّٰی است باسم الظاہر مورد فیض لطیفۂ نفس و لطائف خمسۂ عالم امر من است۔

مراقبۂ اسم الباطن

فیض می آید از ذاتیکہ مسمّٰی است باسم الباطن منشار فیض دائرہ ولایت علیا است کہ ولایت ملائکہ ملاء اعلیٰ است، مورد فیض عناصر اربعۂ من سوائے عنصر خاک۔

مراقبہ کمالات نبوّت

فیض می آید از ذات بحت کہ منشاء کمالات نبوّت است مورد فیض لطیفۂ عنصر خاک من است۔

مراقبہ کمالات رسالت

فیض می آید از ذات بحت کہ منشاء کمالات رسالت است مورد فیض

ہیئت وحدانی من است۔

مراقبہ کمالات اولوالعزم

فیض می آید از ذات بحت کہ منشائے کمالات اولوالعزم است مورد فیض ہیئت وحدانی من است۔

مراقبہ حقیقت کعبۂ ربّانی

فیض می آید از ذات بحت کہ مسجود الیہ جمیع ممکنات و منشاء حقیقت کعبۂ ربّانی است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔

مراقبہ حقیقت قرآن مجید

فیض می آید از مبداء وسعت بیچون حضرت ذات کہ منشاء حقیقت قرآن مجید است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔

مراقبہ حقیقت صلوٰۃ

فیض می آید از کمال وسعت بے چون حضرت ذات کہ منشاء حقیقت ذات است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔

مراقبۂ معبودیّتِ صرفہ

فیض میآید از ذاتیکہ منشاءِ معبودیّتِ صرفہ است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من است۔

مراقبہ حقیقت ابراہیمی

فیض میآید از ذاتیکہ منشاء حقیقتِ ابراہیمی است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من است

مراقبہ حقیقتِ موسوی

فیض میآید از ذائیکہ منشاءِ حقیقتِ موسوی است ، موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من است۔

مراقبہ حقیقتِ محمّدی

فیض میآید از ذاتیکہ منشاءِ حقیقتِ محمّدی است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من است

مراقبہ حقیقتِ احمدی

فیض میآید از ذاتیکہ منشاءِ حقیقتِ احمدی است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من است۔

مراقبہ حُبِّ صرف

فیض میآید از ذاتیکہ منشاءِ حُبِّ صرف است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من است۔

مراقبہ دائرہ لاتعیّن

فیض میآید از ذاتِ بحت کہ منشاءِ دائرہ لاتعیّن است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من است۔

Scanned with CamScanner

مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

زمین و آسمان کی کنجیاں

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ وَسُبْحَانَ اللّٰہِ
وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ الَّذِیْ لَآ اِلٰہَ اِلَّا
ھُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْبَاطِنُ یُحْیِیْ
وَیُمِیْتُ وَھُوَ حَیٌّ لَّا یَمُوْتُ بِیَدِہِ الْخَیْرُ وَ
ھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ہ

"کوئی معبود نہیں، مگر اللہ۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پاک ہے اللہ۔ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور بخشش مانگتا ہوں میں اللہ سے، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ وہ اوّل ہے اور وہ آخر ہے۔ اور ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے۔ وہ زندہ کرتا ہے، اور مارتا ہے۔ اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اُسے (کبھی) موت نہیں، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالےٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے آیت، اللہ کے اس فرمان ——— "آسمان اور زمین کی کنجیوں" کے بارے میں پوچھا۔ تو آپؐ نے مجھے فرمایا۔ کہ اے عثمانؓ! تو نے مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے۔ جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی۔ آسمان و زمین کی کنجیاں (یہ ہیں)

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکْبَرُ ...... الخ

اے عثمان رضی اللہ تعالےٰ عنہ! جس نے اس وظیفہ کو روزانہ سو مرتبہ پڑھا۔ اس کو اس کے بدلے میں دس نوازشیں حاصل ہوں گی۔ پہلی اس کے اگلے گناہ معاف کر دیئے جائینگے۔

دوسری۔ اس کو آگ سے نجات لکھ دی جائے گی۔

تیسری۔ اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں۔ جو رات دن اس کی آفتوں سے بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں۔

چوتھی۔ اس کو خزانہ ثواب کا دیا جاتا ہے۔

پانچواں۔ اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا، جس نے حضرت اسمٰعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سو غلام آزاد کیے ہوں

چھٹی۔ اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ جیسے اس نے قرآن کریم، تورات، انجیل اور زبور پڑھ لیں۔

ساتواں: اس کے واسطے بہشت میں گھر بنے گا۔

آٹھواں: اس کا حورالعین سے نکاح کر دیا جائے گا۔

نواں: اس کے سر پر عزّت کا تاج پہنایا جائے گا۔

دسواں: اس کے گھر کے ستر آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔

اے عثمان رضی اللہ تعالےٰ عنہ! اگر تو طاقت رکھے، تو کسی دن بھی یہ وظیفہ تجھ سے فوت نہ ہو۔ تو کامیاب ہونے والوں میں سے کامیاب ہوگا۔ اور اگلوں پچھلوں میں سے بڑھ جائے گا۔

آفتوں سے بچنے کا وظیفہ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ۔

جو شخص روزانہ صبح پچیس مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا۔ وہ پورے دن ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

پیارا وظیفہ

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مَا هُوَ أَهْلُهٗ

"اے اللہ! ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جزاء دیجیے، جس کے وہ اہل ہیں۔"

"حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضورِ اقدس صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے فرمایا۔۔۔

جو شخص اس طرح کہے۔ جزی اللہ عنا .... الخ

تو اس کا ثواب ستر فرشتوں کو ہزار دن تک مشقت میں ڈال دے گا۔ یعنی وہ ہزار دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔"

(طبرانی فی الکبیر والاوسط)

Scanned with CamScanner

طلب برکت و مغفرت کی دعا

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْلِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝

اسلام پر خاتمہ ہونا (دُعا)

حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری دعا کی تھی۔

فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِیّٖ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَۃِ تَوَفَّنِیْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ ۝

ظالموں سے نجات پانے کیلئے

اس دعا کی بدولت بنی اسرائیل فرعون کے پنجہ سے چھوٹے تھے

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَۃً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ ۝

طلب صبر اور انجام بخیر کے لیے

یہ فرعون کے جادوگروں کی دعا ہے جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے گویا دشمنوں کے مقابلہ میں صبر اور انجام بخیر ہوئے اور ایمان کی سلامتی کی دعا ہے۔

رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ ۝

رحم اور مغفرت کیلئے

اس دُعا کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی تھی

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ۝

جنت میں جانے کیلئے

گناہ کی معافی کے لیے اور دوزخ کی عذاب سے بچنے کے لیے مومنوں کے لیے خوشخبری کی دُعا۔

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

استقامت اور رحمت کیلئے

خدا تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی ہے آج کل اس دعا کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ اسلامی عقائد سے منحرف اور متزلزل کرنے والے بہت سے دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں خدا اپنے فضل سے ان ظالموں سے بچائے۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَآ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝

دین و دنیا کی خیر و برکت کیلئے

اس کی فضیلت خدا تعالےٰ نے خود بیان فرمائی ہے۔

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

بچے کی مرض اور شر سے بچانے کیلئے

بچے کا ڈرنا اور طرح طرح کی بیماریوں سے بچنے کے ان کلمات کو پڑھ کر روزانہ دم کریں۔

أُعِيْذُكَ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ۔

بدن میں کسی جگہ تکلیف ہو

پھوڑا یا زخم ہو تو اپنی شہادت کی انگلی کو لعاب دہن لگا کر زمین پر رکھ دیوے اور پھر اٹھا کر زخم یا پھوڑے کی جگہ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا۔

انشاء اللہ تعالےٰ شفا ہوگی۔

Scanned with CamScanner

سر کے درد کا علاج

مواہب لدنیہ میں جامع حمیدی سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم درد سے پناہ مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ النَّارِ ؕ

روزانہ کے معاملات

۱۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کلموں کو ہر روز صبح و شام کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرے۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ؕ

فضیلت:۔ جو شخص یہ پڑھے گا۔ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز کے بعد تین دفعہ یہ دعا پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے وہ گناہ سمندر کے برابر ہوں۔

۲۔ رَبِّ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ؕ

فضیلت:۔

یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے مصیبت تکلیف قرض میں گھرا ہوا شخص زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھے۔ تو بہت فائدہ ہوگا۔ اسے صبح و شام سات یا گیارہ دفعہ پڑھ لینا بہتر ہے۔

۳۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوْسَ

اے اللہ بیشک میں سوال کرتا ہوں، جنت الفردوس کیلئے

۴۔ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ؕ

پس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا اور سب سے زیادہ مہربان ہے۔

فضیلت:۔ جس شخص کو دشمن کا خوف ہو یا اور کسی قسم کی مصیبت ہو تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھتا رہے ان شاء اللہ بلا ٹل جائے گی۔ بہتر ہے کہ صبح و شام ۱۱ دفعہ پڑھے اس کے ورد سے حفاظت و نگرانی ہوگی۔ جیسے اپنی قوت حافظہ مضبوط

کرتی ہوا سے چاہیئے کہ نماز میں اَلتَّحِیَّاتُ کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھے۔

۵۔ حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ عَلَی اللّٰہِ تَوَکَّلْنَا ؕ

اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔

فضیلت:۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالےٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی اور اس کی برکت سے آپ آگ سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس دعا کو ہر مصیبت، غم اور دکھ کے وقت میں زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیئے۔

۶۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیتؓ کو جمع کر کے فرمایا۔

جب تم میں سے کسی کو غم یا کرب پہنچے تو وہ یوں کہے۔

اَللّٰہُ اَللّٰہُ رَبِّیْ لَا اُشْرِکُ بِہٖ شَیْئًا ؕ

(رواہ ابن حبان وصححہ)

۷۔ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝

کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہ ذات پاک ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔

فضیلت:۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ میں اسم اعظم ہونے کے بارے میں کئی بزرگوں کی رائے ہے۔ کوئی بھی آفت اور مصیبت کے وقت پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتے ہیں۔

حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نکل گئی تھی تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اس کا ورد کیا تھا۔

۸۔ اَللّٰھُمَّ اِنَّا نَجْعَلُکَ فِیْ نُحُوْرِھِمْ وَنَعُوْذُبِکَ مِنْ شُرُوْرِھِمْ ؕ

اے اللہ ہم عدو کے لیے ان کے مقابلے میں تجھے رکھتے ہیں اور اُن کی شرارتوں سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

فضیلت:۔ پاکیزگی اور پابندی کے ساتھ روزانہ دعا کا ورد زیادہ تعداد میں کرنے سے کئی فائدہ ہیں۔

روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوم کی طرف

Scanned with CamScanner

سے کوئی ڈر محسوس ہوتا تو آپ اُسے زیادہ سے زیادہ پڑھتے۔

۹۔ وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْٓ اِلَی اللّٰہِ ؕ اِنَّ اللّٰہَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ ؕ

اور میں اپنے تمام کام اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ یقیناً اللہ سب بندوں کا نگہبان ہے۔

فضیلت:۔

۱۔ جب لوگوں کی طرف سے تکلیف اور پریشانی ہوئی ہو تو اس کا زیادہ سے زیادہ ورد ہر تکلیف سے نجات دے گا۔

۲۔ جس شخص پر مقدمہ چلتا ہو یا اس کو اس کا حق نہ ملے تو روزانہ ایک سو ایک دفعہ پڑھنے سے انشاءاللہ اسے کامیابی ہوگی

۱۰۔ رَبِّ یَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَیْرِ وَبِکَ نَسْتَعِیْنُ ؕ

اے میرے خدا آسان کر اور مشکل نہ کر اور بھلائی کے ساتھ پورا کر اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔

فضیلت:۔ کسی کام میں مشکلات کا سامنا ہو تو بعد نماز عشاء

کے (۱۰۱) سو ایک بار پڑھے اور ہر نماز کے بعد گیارہ (۱۱) مرتبہ پڑھنے سے بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ہر قسم کی مصیبت پریشانی دور ہو گی اور ہر کام کا اچھا نتیجہ نکلے گا اور خدا کی مدد حاصل ہوگی۔

۱۱۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِاَعْدَآئِکُمْ ؕ وَکَفٰی بِاللّٰہِ وَلِیًّا ۙ وَّکَفٰی بِاللّٰہِ نَصِیْرًا ۝

اور اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور اللہ کافی رفیق ہے اور اللہ کافی مددگار ہے۔

فضیلت:۔ جب کسی دشمن سے خوف اور نقصان کا خطرہ ہو تو اس کا ورد زیادہ تعداد میں پڑھنا چاہیئے اس کی برکت سے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بلکہ ورد کرنے والا دشمن پر غالب رہے گا۔

۱۲۔ اَللّٰہُ حَفِیْظٌ لَطِیْفٌ قَدِیْمٌ اَزَلِیٌّ حَیٌّ قَیُّوْمٌ لَّا یَنَامُ۔

اللہ حفاظت کرنے والا۔ مہربان، ہمیشہ رہنے والا، زندہ جاوید رہنے والا، جسے کبھی نیند نہیں آتی۔

فضیلت:۔ جو شخص سفر میں سات مرتبہ پڑھے یا لکھ کر رکھے

Scanned with CamScanner

وہ کسی حادثے سے دوچار نہ ہوگا۔ لکھ کر پیٹی میں رکھنے والے کو چوری
کا خطرہ نہ ہوگا۔ روزانہ صبح و شام گیارہ بار پڑھنے والا امن رہے گا۔

۱۳۔ یَا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَیْرِ یَا بَدِیْعُ ط

اے عجیب چیزوں کو بھلائی کے ساتھ پیدا کرنے والے اے نئی
چیزوں کے خالق۔

فضیلت:۔ جب کسی کو کوئی حاجت ہو تو ۱۲ دن روزانہ ۱۲۰۰
مرتبہ پڑھے ان شاء اللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ روزانہ ۱۰۰ دفعہ
پڑھنے سے بھی کامیابی ہوگی۔ بہت چھوٹی لیکن بہت کارآمد دعا
ہے۔ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بھلائی سے مالا مال ہو جائے گا۔

۱۴۔ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِیْنُ ط
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِیْنُ ط

نہیں ہے کوئی معبود برحق سوا خدا کے وہ بادشاہ حق اور ظاہر
ہے۔ محمد اللہ کے رسول اور وعدے کے سچے امانت دار ہیں۔

فضیلت:۔ جو انسان روز (۱۰۰) سو بار اس کا ورد کرے گا۔ اس
کی روزی میں برکت ہوگی۔ عذاب قبر سے بچا رہے گا۔ موت کے

وقت اس کی روح کے جنت میں داخلہ کے لیے تمام دروازے
کھل جائیں گے۔ یہ کلمہ روضہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی
مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے۔

۱۵۔ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ ط

اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے تیری
رحمت کے ذریعہ فریاد چاہتا ہوں۔

فضیلت:۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فکر و پریشانی کے وقت پڑھتے تھے۔
فجر کے فرض اور سنت کے درمیان (۴۰) بار پڑھنے سے ہر قسم کی
فکر۔ پریشانی اور تکلیف سے نجات ملتی ہے اور اگر مقروض ہو
تو روزانہ سو (۱۰۰) دفعہ پڑھنے سے قرض سے نجات ملتی ہے۔

۱۶۔ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ۔

اے اللہ مجھے آتش دوزخ سے بچا۔

فضیلت:۔ فجر کے نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر اور کسی سے

بات کئے بغیر پڑھتا رہے اور اگر اسی دن یا رات کو مرجائے گا تو پروردگار اسے شہادت کا رتبہ عطا کرے گا۔

۱۷۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین پر نقصان پہنچاتی ہے نہ آسمان سے اور وہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

فضیلت:۔ حدیث شریف میں اس دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اچانک آفتوں سے اور بھیانک بیماری سے بچا رہے گا۔ صبح وشام یہ دعا تین مرتبہ پڑھنے سے ہر آفت وبلا سے بچائے گی۔ بچہ کو اگر نظر ہوجائے تو اس دعا کو پڑھ کر دم کرنے سے آرام پائے گا اور کھانے پینے کی چیزوں پر دم کرنے سے ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔

۱۸۔ فَسَهِّلْ يَا إِلٰهِي كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِّلْ ۝

اے اللہ! تو ہر مشکل کو آسان کر دے۔ حضور اکرم صلے اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے۔

فضیلت:۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنے سے انشاء اللہ تعالیٰ جو تمنا ہوگی، پوری ہوگی۔ تین بار پڑھنا بہتر ہے۔

۱۹۔ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا ۝

ہم خوش ہوئے اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین پر اور حضرت محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر۔

فضیلت:۔ یہ دعا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو صبح وشام نماز کے بعد تین تین بار پڑھے گا تو اس کے لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالےٰ اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کر دیں گے۔

مغفرت کیلئے

۲۰۔ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِينَ ۝

اے میرے پروردگار (ہمارے قصور) معاف کر اور (ہمارے حال پر) رحم فرما اور تو (سب) رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے

Scanned with CamScanner

کرنے والا) ہے

۲۱- فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

ہم نے تمہارے اوپر سے تمہاری غفلت کا پردہ ہٹالیا ہے اس سے آج تمہاری آنکھوں کی روشنی بہت تیز ہے۔

فضیلت :- یہ قرآنی آیت سورۃ قٓ کی ہے آنکھوں کی روشنی کے لیے ہر نماز کے بعد سات یا تین بار پڑھ کر آنگھوٹوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کی روشنی قائم رہے گی۔ اگر کم ہوگئی تو اور زیادہ ہوجائے گی۔

۲۲- اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِیْ دِیْنِیْ وَدُنْیَایَ وَاَهْلِیْ وَمَالِیْ ○

اے اللہ! میں تجھ سے اپنے عزیز واقارب اور اولاد کے لیے معافی چاہتا ہوں اور اپنے مال وجان کی حفاظت چاہتا ہوں۔

فضیلت :- حضرت محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی سلامتی اور اپنے بال

بچوں اور مال کی حفاظت ہوگی۔ صبح وشام بعد نماز تین تین دفعہ پڑھیں۔

۲۳- اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ بَدَنِیْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ سَمْعِیْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ بَصَرِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ○

اے اللہ میرے پورے جسم میں اور میرے کان میں اور میری آنکھوں میں اور میرے گھٹنوں میں صحت عطا فرما۔ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔

فضیلت :- یہ دعا صحت کے لیے ہے جو صبح وشام کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھنے سے بہت ثواب ہوگا۔ اور بہت فائدہ ہوگا۔

بخار کے لیے

بِسْمِ اللّٰہِ الْکَبِیْرِ نَعُوْذُ بِاللّٰہِ الْعَظِیْمِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ۔

لکھ کر پانی میں گھول کر پلادیں بخار جاتا رہے گا۔

شفایاب ہونے پر

اَسْأَلُ اللّٰہَ الْعَظِیْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَنْ یَّشْفِیَکَ۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو ضرور شفا ہوگی۔ ہاں اگر اس کی موت ہی آگئی ہو تو دوسری بات ہے۔

زبان کی لکنت

اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ پڑھا کرے۔

میں اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔

عملیاتِ اولیاء

جمالی عملیات وظائف

اللہ تعالیٰ کے ۹۹ اسمائے مبارکہ بڑے جذب واثر کے مالک ہیں لاتعداد فرشتے اور موکلان انہیں پاک ناموں سے وابستہ رہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح وتحلیل کیا کرتے ہیں۔

ان اسمائے مبارکہ میں سے کچھ جلالی اور کچھ جمالی ہیں۔ ان کا ورد قاعدہ اور کلیہ سے کیا جاتا ہے

خوشبو وغیرہ لگا کر موم جامہ میں منڈھ کر دائیں بازو پر باندھا جائے عمل کے دوران روزانہ بلا ناغہ تعویذ مذکورہ کو سب سے پہلے خوشبو لگائی جائے اور اس کے بعد عمل شروع کیا جائے۔

Scanned with CamScanner

اسماءِ الحُسنیٰ کی زکوٰۃ

اسمائے حسنہ کی عمل خوانی سے پہلے ان اسماء کی زکوٰۃ ادا کرنا عامل پر فرض ہے۔ چنانچہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے پرہیز جلالی و جمالی کرے اور پھر ایک رات کو کسی مقررہ مقام پر حصار کھینچے۔ ننانوے بار ننانوے روز تک بلاناغہ پڑھے اور ہر اسم پاک پر حرف ہذا کو زیادہ کرے یہی اس کی زکوٰۃ ہوگی۔

یَا اَللّٰہُ

معنی : اے اللہ

خاصیت : جلالی

طبع : گرم

بخور (خوشبو) : عود

برج : حمل

ستارہ : زحل

جن : تیبوپوش

مؤکل : اسرافیل

نقشِ یہ

یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ

خواص:

اس اسم مبارکہ کو روزانہ ہزار بار پڑھے تو صاحب یقین ہو اور جو کوئی بلاناغہ بعد نماز پنجگانہ سو بار پڑھے اس کا باطن کشادہ ہو اور جب کوئی حاجت پیش آئے ہزار بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ حاجت پوری ہوگی۔

یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیْمُ

معنی : نہایت رحم والا - نہایت مہربان

خاصیت : جمالی ہے

طبع : سرد ہے

بخور : گلاب

برج : سنبلہ

ستارہ : عطارد

جن : رہوش

مؤکل : اموائیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

۱۳۱	۱۴۵	۱۴۲	۱۳۹
۱۴۳	۱۳۸	۱۳۲	۱۴۴
۱۳۷	۱۴۰	۱۴۷	۱۳۳
۱۴۶	۱۳۴	۱۳۶	۱۴۱

خاصیّت :

جو کوئی بعد نماز عشا رسو بار پڑھے اور نگینہ پر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کندہ کرا کر اپنے پاس رکھے دشمن دوست ہو جائے گا۔

یَا مُلکُ

معنی : بادشاہ حقیقی

خاصیت : جمالی

طبع : گرم آبی

بخور : چنبیلی یا مولسری

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوش

موکل : رومائیل

خاصیت :

جو کوئی اس اسم پاک کو نوّے بار روزانہ پڑھے گا۔ عزّت و حرمت

پائے گا۔ عزیز خلائق ہوگا تونگری حاصل ہوگی۔

یَا قُدُّوسُ

معنی : برائی سے پاک و صاف

طبع : خشک

برج : حوت

ستارہ : زہرہ

جن : شمیوس

موکل : عطرائیل

۷۸۶

۵۸	۶۲	۶۵	۵۱
۶۴	۵۲	۵۷	۶۳
۵۳	۶۷	۶۰	۵۶
۶۱	۵۵	۵۴	۶۶

نقش یہ ہے

خواص :

جو کوئی ہر روز زوال کے وقت پڑھے اس کی صفائی قلب ہو۔ جو کوئی بعد نماز جمعہ اس کو روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے فرشتہ صفت ہو دشمنوں سے امان پائے۔ مسافر مسافت میں پڑھے تو سفر کی جملہ بدنظروں سے بچا رہے۔

اگر تین سو بار شیرینی پر دم کرکے دشمن کو کھلائے تو دشمن زیر ہو جائے

Scanned with CamScanner

یا سلامُ

معنی : سلامت، بے عیب

خاصیت : جمالی

طبع : خشک

برج : قوس

ستارہ : زحل

جن : فیلنوس

مؤکل : ہمواکیل

۷۸۶

۴۹	۵۲	۵۵	۴۱
۵۴	۴۲	۴۸	۵۳
۴۳	۵۷	۵۰	۴۷
۵۱	۴۶	۴۴	۵۶

خواص :

اگر ایک سو بار پڑھ کر بیمار پر دم کریں تو شفا پائے۔

یا مؤمنُ

معنی : امن دینے والا

طبع : گرم آبی

خاصیت : جمالی

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوشش

مؤکل : رویائیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

۴۸	۵۲	۵۵	۴۱
۵۴	۴۲	۴۷	۵۳
۴۳	۵۷	۵۰	۴۶
۵۱	۴۵	۴۴	۵۶

خواص :

جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھے۔ دشمن پر غالب رہے۔ ظاہر و باطن ایک ہو۔ حق تعالے کی امان میں رہے۔ زیادہ ورد کرنے پر خلقت مطیع ہو جائے۔

یا مُہیمِنُ

معنی : نگہبان

خاصیت : جمالی

طبع : گرم آبی

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوش

مؤکل : رویائیل

خاصیت :

جو کوئی غسل کر کے وقت مقررہ پر متواتر ایک سو پندرہ بار اس اسم کو پڑھے۔ دل کی ہر مراد پائے گا۔

یَا عَزِیْزُ

معنی : بڑی عزت والا۔ سب پر غالب

طبع : سرد

برج : سنبلہ

ستارہ : مشتری

جن : فسیکش

مؤکل : لومائیل

۷۸۶

۳۹	۴۳	۴۶	۳۲
۴۵	۳۳	۳۸	۴۴
۳۴	۴۸	۴۱	۳۷
۴۲	۳۶	۳۵	۴۷

خواص :

جو کوئی بلا ناغہ بعد نماز فجر اس اسم پاک کی اکتالیس بار تلاوت کرے کبھی کسی کا محتاج نہ ہو۔ جو کوئی اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے

غنی ہو جائے۔

یَا جَبَّارُ

معنی : زبردست

طبع : جلالی

خاصیت : یابس

بخور : دار چینی

برج : سرطان

ستارہ : ثریا۔ مریخ

جن : لونوش

مؤکل : کالکائیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

٦۷	۷۱	۷۴	٦۰
۷۳	٦۱	٦٦	۷۲
٦۲	۷٦	٦۹	٦۵
۷۰	٦۴	٦۳	۷۵

خواص :

جو کوئی اس اسم کو اکیس بار پڑھے ظالموں کے شر سے محفوظ رہے۔ دشمنوں کی زبانیں بند رہیں گی۔

یَا مُتَکَبِّرُ

معنی : بزرگ

۷۸۶

۱۸۱	۱۸۵	۱۸۸	۱۷۴
۱۸۷	۱۷۵	۱۸۰	۱۸۶
۱۷۶	۱۹۰	۱۸۳	۱۷۹
۱۸۴	۱۷۸	۱۷۷	۱۸۹

خاصیّت : جلالی

طبع : آبی

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : محبوش

مؤکل : رومائیل

خواص :

جو کوئی اپنی منکوحہ سے قصد مجامعت کرے اور وقت دخول ۱۰ بار کہے فرزند صالح پیدا ہو۔ ظالم حاکم سے محفوظ رہے

یَا خَالِقُ

معنی : پیدا کرنے والا

طبع : سرد

برج : جدی

ستارہ : مریخ

جن : والاکوشش

مؤکل : مہکائیل

۷۸۶

۱۹۹	۲۰۲	۲۰۵	۱۹۱
۲۰۴	۱۹۲	۱۹۸	۲۰۳
۱۹۳	۲۰۷	۲۰۰	۱۹۷
۲۰۱	۱۹۶	۱۹۴	۲۰۶

نقش یہ ہے

خواص :

جو عورت بانجھ ہو۔ روزہ رکھے اور افطار کے وقت اکیس بار یہ اسم پڑھے تو لڑکا پیدا ہو۔

یَا بَارِئُ

معنی : بے مانند پیدا کرنے والا

خاصیّت : جمالی

طبع : سرد

برج : جوزا

ستارہ : مشتری

۷۸۶

۶۹	۷۲	۷۶	۶۲
۷۵	۶۳	۶۸	۷۳
۶۴	۷۸	۷۰	۶۷
۷۱	۶۶	۶۵	۷۷

خواص:

جو کوئی طبیب اس اسم پاک کا ورد کرے اس کا ہر مریض شفا پائے اللہ تعالے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا دے۔ جو کوئی تا زندگی اس اسم کا ورد کرے عذاب قبر سے بچا رہے۔ زندگی بھر دنیوی کاموں میں آسائش پائے۔ کشادہ دست رہے۔

یَا مُصَوِّرُ

معنی :	صورت گر
طبع :	آبی
برج :	اسد
ستارہ :	عطارد
جن :	مجیوش
مؤکل :	رویائیل

۷۸۶

۹۳	۱۰۶	۱۰۳	۱۰۰
۱۰۴	۹۹	۹۴	۱۰۵
۹۸	۱۰۱	۱۰۸	۹۵
۱۰۷	۹۶	۹۷	۱۰۲

خواص :-

یہ اسم پاک بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔ اگر زن عقیمہ اس اسم کو بلاناغہ پڑھے تو اس کو فرزند پیدا ہوگا۔

یَا قَهَّارُ

معنی :	سب پر غالب
خاصیت :	جلالی
طبع :	خشک گرم
برج :	حوت
ستارہ :	زہرہ
جن :	شمیوس
مؤکل :	عطرائیل

۷۸۶

وع	ه۵	ا۱	ب۲
ا	ب	و	ه
ب	ا	ه	و
ه	و	ب	ا

نقش یہ ہے

خواص :- جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھتا ہے۔ پروردگار عالم اس کو غیب سے روزی دے گا۔ اور جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے غنی ہو جائے روایت حضرت سلیمان علیہ السلام اسی اسم پاک کی بدولت وہ جن وانس کے بادشاہ بنے۔

یا غفارُ

معنی : بڑا بخشنے والا

خاصیت : جمالی

طبع : خشک

بخور : قرنفل

برج : حوت

ستارہ : قمر

جن : غزفوریوش

مؤکل : لومائیل

۷۸۶

۳۳۶	۳۳۹	۳۴۳	۳۲۹
۳۴۲	۳۳۰	۳۳۵	۳۴۰
۳۲۱	۳۴۵	۳۳۷	۳۳۴
۳۳۸	۳۲۲	۳۳۲	۳۴۴

نقش یہ ہے

خواص :

جو کوئی اس کا ورد جاری رکھے اور درج ذیل نقش کو پاس رکھے۔ گناہوں سے بچا رہے۔ ہر کام کے شروع ہوتے ہی پورے ہوں گے۔ آزمائش شرط ہے۔

یا رزاقُ

معنی : رزق دینے والا

طبع : سرد

بخور : گلاب

برج : سنبلہ

ستارہ : عطارد

جن : رہوشش

مؤکل : امواکیل

خواص :

جو کوئی گھر کے چاروں کونوں میں اسم پاک کو صبح صادق کے وقت دس دس بار پڑھے اور دائیں کونے سے شروع کرے تو گھر میں کبھی مفلسی نہ ہو۔ روزی غیب سے آئے گی۔ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

Scanned with CamScanner

یَا فَتَّاحُ

معنی : کھولنے والا

خاصیت : جلالی

طبع : گرم

برج : جوزا واسد

ستارہ : مریخ

جن : یعبطوس

مؤکل : سرحمائیل نقش یہ ہے

۷۸۶

۱۳۸	۱۴۱	۱۴۵	۱۳۱
۱۴۴	۱۳۲	۱۳۷	۱۴۲
۱۳۳	۱۴۷	۱۳۹	۱۳۶
۱۴۰	۱۳۵	۱۳۴	۱۴۶

خواص :-

جو کوئی بعد نماز فجر داہنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ستر بار اس اسم پاک کا ورد کرے ۔ اس کے قلب کی صفائی ہو ۔ اس نقش کو اپنے پاس رکھنے والا کبھی محتاج نہیں گی ۔ غیب سے روزی آئے گی ۔

یَا عَلِیْمُ

معنی : جاننے والا ظاہر و پوشیدہ کا

طبع : سرد

بخور : فلفل

برج : سنبلہ

ستارہ : مشتری

جن : قیوش

مؤکل : لومائیل نقش یہ ہے

۷۸۶

۵۳	۵۷	۶۰	۴۶
۵۹	۴۷	۵۲	۵۸
۴۸	۶۲	۵۵	۵۱
۵۶	۵۰	۴۹	۶۱

خواص :

جو کوئی بعد نماز پنجگانہ کے سو بار پڑھے اس کی بصیرت بڑھے اگر کوئی طالب علم اس نقش کو لکھ کر پاس رکھے بڑا علم پائے ۔

یَا قَابِضُ

معنی : روزی و رزق کو تنگ کرنے والا

Scanned with CamScanner

خاصیت : جلالی

طبع : خشک

بخور : ترنج

برج : حوت

ستارہ : زہرہ

جن : شہمیوس

مؤکل : عطرائیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

۲۴۲	۲۴۵	۲۴۸	۲۳۴
۲۴۷	۲۳۵	۲۴۱	۲۴۶
۲۳۶	۲۵۰	۲۴۳	۲۴۰
۲۴۴	۲۳۹	۲۳۷	۲۴۹

خواص :-

جو کوئی چالیس روز تک روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے بھوک اور عذاب قبر سے محفوظ رہے ۔ نقش لکھ کر پاس رکھے تو اسہال کی بیماری دور ہو۔

یَا خَافِضُ

معنی : کافروں کو پست کرنے والا

خاصیت : جمالی

طبع : سرد

بخور : بنفشہ

برج : جدی

ستارہ : مریخ

جن : والاکوش

مؤکل : مہکائیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

۲۰۹	۲۱۲	۲۱۵	۲۰۱
۲۱۴	۲۰۲	۲۰۸	۲۱۳
۲۰۳	۲۱۷	۲۱۰	۲۰۷
۲۱۱	۲۰۶	۲۰۴	۲۱۶

خاصیّت :

اس کا ورد کرنے والا دشمن پر ہمیشہ فتح پائے نقش پاس رکھنے والے کو تنگی نہ ہو۔

یَا رَافِعُ

۷۸۶

۱۰۴	۱۰۷	۱۱۰	۹۶
۱۰۹	۹۷	۱۰۳	۱۰۸
۹۸	۱۱۲	۱۰۵	۱۰۲
۱۰۶	۱۰۱	۹۹	۱۱۱

معنی : بلند کرنے والا

خاصیت : جمالی

طبع : سرد

بخور : گلاب

برج : سنبلہ

ستارہ : عطارد

جن : رہوشش

مؤکل : امواکیل

خواص :-

جو کوئی اس اسم کو دو پہر رات گئے یعنی آدھی رات کے بعد (پچھلی رات) کو سو مرتبہ پڑھے گا وہ عزت اور شہرت پائے گا

یَا مُعِزُّ

معنی : عزت دینے والا

خاصیت : جلالی گرم

طبع : آبی

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوشش

۷۸۶

۴۵	۴۸	۵۲	۳۸
۵۱	۳۹	۴۴	۴۹
۴۰	۵۴	۴۶	۴۳
۴۷	۴۲	۴۱	۵۳

مؤکل : روبائیل

خواص :-

جو کوئی اس اسم پاک کو شب دو شنبہ کو بعد نماز شام ایک سو چالیس مرتبہ پڑھے گا وہ دنیا کی نظر میں عزت پائے گا۔ اسم کا موافق اعداد پڑھنے والا مخلوق سے نہیں ڈرتا۔

یَا مُذِلُّ

معنی : ذلت دینے والا

خاصیت : جلالی

طبع : گرم آبی

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوشش

مؤکل : روبائیل نقش یہ ہے

۷۸۶

۲۰۸	۲۱۲	۲۱۵	۲۰۱
۲۱۴	۲۰۲	۲۰۷	۲۱۳
۲۰۳	۲۱۷	۲۱۰	۲۰۶
۲۱۱	۲۰۵	۲۰۴	۲۱۶

خواص :-

جو کوئی کسی ظالم یا حاسد سے ڈرتا ہو تو ۷۵ بار اس اسم کو پڑھے

Scanned with CamScanner

اور اس کے بعد سجدے میں جائے اور کہے یا الٰہی فلاں ظالم آدمی کے شر سے بچا اور اپنا حفظ و امان دے۔ روزانہ اس اسم کا ذکر کرنے والا دشمن سے محفوظ رہے گا اور اس کو ذلیل کرے گا۔

یَا سَمِیْعُ

معنی : سننے والا

برج : قوس

ستارہ : زحل

جن : نغیوشش

مؤکل : ہمواکیل

خواص :

جو کوئی پنجشنبہ کے دن بعد نماز چاشت کے پانچ سو بار پڑھے گا اور درمیان خواندگی کسی سے بات نہ کرے پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ روزانہ پڑھتا رہے۔ ذاکر بن جائے۔ جو دعا مانگے قبول ہوگی یوں سمجھ لو کہ جو اس کے پڑھے گا اُسے پروردگار قبول کرے گا۔ اور وہ ذات ضرور سنے گا۔ اور قبول کرے گا۔

یَا بَصِیْرُ

۷۸۶

۹۱	۹۵	۹۸	۸۴
۹۷	۸۵	۹۰	۹۶
۸۶	۱۰۰	۹۳	۸۹
۹۴	۸۸	۸۷	۹۹

معنی : دیکھنے والا

برج : جوزا

ستارہ : مشتری

مؤکل : جبرائیل

خواص :-

جو کوئی بعد نماز فجر اس اسم پاک کی پانچ سو بار تلاوت روزانہ کرے گا اس کی ہر مشکل آسان ہو۔ اس کے ذاکر پر اللہ تعالےٰ پوشیدہ امور دکھلاتا ہے۔ بڑا زبردست اسم ہے اور ایک عرصہ تک بقید ترک حیوانات جلالی و جمالی پڑھتے رہنے سے بہت سے خفیہ رازوں پر مطلع ہوتا ہے۔

یَا حَکَمُ

معنی : حکم کرنے والا

بخور : زعفران

Scanned with CamScanner

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیوش

مؤکل : تنکیفیل

۷۸۶

۳۳	۳۶	۳۹	۲۶
۳۸	۲۷	۳۲	۳۷
۲۸	۴۱	۳۴	۳۱
۳۵	۳۰	۲۹	۴۰

خواص :-

نقش یہ ہے

جو کوئی اس اسم پاک کے نقش کو لکھ کر اپنے دائیں بازو پر باندھے اور پانچ بار معہ درود کے پڑھ کر حاکم کے روبرو جائے انشاء اللہ حاکم مہربان ہو۔ حاکم اگر پڑھے مخلوق میں سرداری پاوے باطن اچھا ہو اور پرہیزگار بن جائے۔ بدباطنی دور ہو۔

یَا عَدْلُ

معنی : انصاف کرنے والا

خاصیت : جلالی

طبع : گرم

بخور : فلفل

برج : سنبلہ

۷۸۶

۴۲	۴۵	۴۸	۳۷
۴۷	۳۶	۴۱	۴۶
۳۷	۵۰	۴۳	۴۰
۴۴	۳۹	۳۸	۴۹

ستارہ : مشتری

جن : قشنیوش

مؤکل : لوائیل

خواص :-

جو کوئی لوگوں کے دل مسخر کرنا چاہے اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے پھر جمعہ کی شب اس اسم پاک کو روٹی کے لقمے پر معہ درود شریف ۱۲۰ مرتبہ دم کر کے تناول کرے۔ چند جمعہ تک یہ عمل کرے

یَا لَطِیْفُ

معنی : باریک بین

خاصیت : جمالی

طبع : سرد

بخور : پوست

برج : ثور

ستارہ : زہرہ

جن : عدکیش

۷۸۶

۱۳	۸۱	۲۹	۶
۲۸	۷	۱۲	۸۲
۸	۳۱	۷۹	۱۱
ف ۸۰	ق ۱۰	ط ۹	ن ۳

نقش نمبر ۱

۴۸۶

ل	ط	ی	ف
ف	ی	ط	ل
ط	ل	ف	ی
ی	ف	ل	ط

نقش ہے

مؤکل : طاطائیل

خواص :-

اس اسم پاک کی وظیفہ خوانی کے فوائد کثیر ہیں۔ مثلاً فراغت معاش خلاصی محبوس، رفع حاجات۔اس کے دو نقش ہیں۔

یَاخَبِیْرُ

معنیٰ : آگاہ کرنے والا

طبع : سرد

برج : جدی

ستارہ : مریخ

جن : دالاپوش

مؤکل : مہکائیل

۴۸۶

خ	ب	ی	ر
ر	ی	ب	خ
ب	ح	ر	ی
ی	ر	ج	ب

نقش یہ ہے

خواص :

اس اسم کی بکثرت تلاوت سے نفس کی سرکشی سے نجات ملتی ہے

ہے اس نقش کو جو کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے قلب منور ہو۔ بوقت ضرورت عورت کے دردزہ کو موقوف کرتا ہے۔

یَاحَلِیْمُ

معنی : بڑا بردبار۔ جلدی انتقام نہ لینے والا

خاصیت : جمالی

بخور : زعفران

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیوشش

مؤکل : تنکفیل

۴۸۶

ح ۸	ل ۳۰	ی ۱۰	م ۴۰
۹	۴۱	۷	۳۱
۴۲	۱۲	۲۸	۶
۲۹	۵	۴۳	۱۱

نقش یہ ہے

خواص :-

اس اسم پاک کے بہت سے خواص ہیں۔اس کو کورے کاغذ پر قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے لکھ کر باغ یا کھیت میں ڈالے۔ فصل زیادہ ہو۔ نقصانات سے بچی رہے گی۔

جو لڑکا شریر ہو اس نقش کو گلے میں ڈالے۔ ساری شوخی و شرارت

Scanned with CamScanner

جاتی رہے۔ حلیم الطبع ہو جائے گا۔

یَا عَظِیْمُ

معنی : بزرگ و برتر

طبع : سرد

بخور : فلفل

برج : سنبلہ

ستارہ : مشتری

جن : کشیوشش

مؤکل : لومائیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

۹۰۱	۴۱	۸	ع
۷	۷۱	ظ ۹۰۰	۴۲
۷۲	ی ۱۰	۳۹	۸۹۹
م ۴۰	۸۹۸	۷۳	۹

خواص:

نماز کے بعد اس اسم پاک کی سو مرتبہ بلاناغہ تلاوت کرنے والا عزت و شہرت پاتا ہے۔ نامور ہوتا ہے اور یہ نقش پاس رکھنا اور زیادہ اثر پیدا کرتا ہے۔

یَا غَفُوْرُ

معنی : بڑا بخشنے والا

خاصیت : جمالی

طبع : خشک

بخور : قرنفل

برج : حوت

جن : قرقوشش

مؤکل : نوحائیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

۳۳۷	۳۴۱	۳۴۴	۳۳۰
۳۴۳	۳۳۱	۳۳۶	۳۴۲
۳۳۲	۳۴۶	۳۳۹	۳۳۵
۳۴۰	۳۳۴	۳۳۵	۳۴۵

خواص:

جو کوئی بیمار ہو اور دوا اثر نہ کرتی ہو اس اسم کو ۱۸۰ مرتبہ پڑھ کر دوا پر دم کرے اور مریض کو پلاوے۔ دوا میں الکحل یعنی شراب وغیرہ کے اجزا شامل نہ ہوں جو عموماً انگریزی دواؤں میں ہوتے ہیں۔ مریض شفا پائے گا۔ دوا اپنا پورا اثر کرے گی۔ جس میں اسم پاک کے اثرات بھی شامل ہوں گے۔

Scanned with CamScanner

یَا شَکُوْرُ

معنی : قبول کرنے والا

خاصیت : جمالی

بخور : عود

برج : عقرب

ستارہ : قمر

جن : تشویش

مؤکل : ہمراکیل

۷۸۶

۳۰۱	۸	۱۹۸	۱۹
۱۹۷	ل ۲۰	ش ۳۰۰	۹
۲۱	ر ۲۰۰	و ۶	۲۹۹
۷	۲۹۸	۲۲	۱۹۹

نقش یہ ہے

خواص :

جو تنگیٔ معاشں میں مبتلا ہو اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے اور اس کو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے ساتھ ہی دُرود شریف بکثرت پڑھا کرے ۔

فراخیِ رزق میں مؤثر ہے ۔ روزی غیب سے آئے گی ۔ جہاں سے اسے پتہ بھی نہ ہوگا ۔

یَا عَلِیُّ

معنی : بڑے اونچے مرتبے والا

خاصیت : جمالی

طبع : سرد

بخور : فلفل

برج : سنبلہ

ستارہ : مشتری

جن : فشیوش

مؤکل : لومائیل

۷۸۶

۴۳	۴۷	۵۰	۳۶
۴۹	۳۷	۴۲	۴۸
۲۸	۵۲	۴۵	۴۱
۴۶	۴۰	۳۹	۵۱

خواص :-

جو کوئی اس اسم پاک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے بلند مرتبہ پائے ۔ مسافر اپنے وطن میں واپس آئے گا ۔ فقیر ہے تو نگری پائے

یَا کَبِیْرُ

معنی : سب سے بزرگ

Scanned with CamScanner

خاصیّت : جلالی

طبع : گرم

بخور : گل سفید

برج : عقرب

ستارہ : زہرہ و شمس

جن : قدیوش

مؤکل : حروزائیل نقش یہ ہے

۷۸۶

۱	۱۹۸	۱۲	۲۱
۱۳	ک ۲۰	ب ۲	۱۹۷
۱۹	ی ۱۰	ر ۲۰۰	۳
۱۹۹	۴	۱۸	۱۱

خواص :

جو کوئی اس اسم پاک کو پڑھے، عالی مرتبہ پائے۔ ہر مہم میں فتح پائے اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے۔

اعداد (۲۳۲) ہیں۔ موافق اس اسم کے اعداد پر روزانہ پڑھتا رہے تھوڑے روز نہ گذریں گے کہ عالی مرتبہ با وقار ہو۔ سب مہم سر ہوں دنیا حقیر نظر آئے۔

یَا حَفِیْظُ

معنی : نگہبان

خاصیّت : جمالی

بخور : زعفران

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیوش

مؤکل : تنکفیل

۷۸۶

ح ۸	ف ۸۰	ی ۱۰	ظ ۹۰
۹	ا ۹۰	۷	۸۱
۹۰۲	۱۲	۷۸	۸
۷۹	۵	۹۰۳	۱۱

خواص :

جو کوئی روزانہ اس اسم مبارک کو بعد نماز صبح سر سجدے میں ڈال کر ایک سو بار پڑھے اور اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ رہے۔ اعداد ۹۹۸ ہیں موافق اس اسم کے اعداد پر روزانہ پڑھتا رہے تھوڑے روز نہ گذریں گے کہ عالی مرتبہ با وقار ہو۔

یَا مُغِیْثُ

معنی : روزی دینے والا

طبع : گرم آبی

برج : اسد

ستارہ : مجیوشش

مؤکل : رویائیل

۷۸۶

ت ۴۰۰	ی ۱	ق ۱۰۰	م ۴۰
۹۹	۴۱	۳۹۹	۱۱
۴۲	۱۰۲	۸	۳۹۸
۹	۳۹۷	۴۳	۱۰۱

خواص :-

اگر کوئی محتاج ہو تو اس کو چاہیئے کہ وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے اور پانی پر دم کرکے پیا کرے اس نقش کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھے تو بہت جلد غنی ہو۔

یَاحَسِیْبُ

معنی : کفایت کرنے والا

بخور : زعفران

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیوشش

مؤکل : تنکفیل

۷۸۶

۳۶	۳۹	۴۲	۲۹
۴۱	۳۰	۳۵	۴۰
۳۱	۴۴	۳۷	۳۴
۳۸	۳۳	۳۲	۴۳

خواص :-

جو کوئی کسی حاسد یا دشمن سے ڈرتا ہو اس اسم پاک کا ورد کرے جو ایک ہفتہ کے اندر اندر اثر دکھائے گا۔ اس اسم کا نقش لکھ کر بازو پر باندھنے سے کوئی مشکل نہیں آئے گی۔

یَاجَلِیْلُ

معنی : بزرگ

خاصیت : جلالی

بخور : دارچینی

برج : سرطان

ستارہ : مریخ

جن : نورکوشش

مؤکل : کلکائیل

نقش یہ ہے

۷۰۶

ل ۳۰	ی ۱۰	ل ۳۰	ج س ۳
۲۹	۴	۲۹۰	۱۱
۵	۳۲	۵	۲۸
۹	۲۷	۶	۳۱

خواص :

جو کوئی اس اسم پاک کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس

یاکریم

معنی : سخی۔ کرم کرنے والا

خاصیت : جلالی

طبع : خشک

بخور : گل سفید

برج : عقرب

ستارہ : زہرہ

جن : قدیوشش

مؤکل : خرذزائیل

۲۸۶

م	ی	ر	ک
ک	ر	ی	م
ی	م	ک	ر
ر	ک	م	ی

نقش یہ ہے۔

خواص :-

جو کوئی اپنے بستر پر اس اسم کو کثرت سے پڑھے یہاں تک کہ نیند اس پر غالب آجائے تو فرشتے اس کے حق میں امر خیر کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ عمل مجرب ہے۔

یارقیب

معنی : بڑا نگہبان

طبع : سرد

بخور : گلاب

برج : سنبلہ

ستارہ : عطارد

جن : ہوشش

مؤکل : امواکیل

۲۸۶

ب	ی	ق	ر
ر	ق	ی	ب
ی	ب	ر	ق
ق	ر	ب	ی

خواص :-

جو کوئی اس اسم پاک کو سات بار پڑھ کر اپنے آپ پر دم کرے۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کے نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا باعث خیر و برکت ہے۔

یامجیب

معنی : دعا قبول کرنے والا

۷۸۶

م	ج	ی	ب
ب	ی	ج	م
ج	م	ب	ی
ی	ب	م	ج

طبع : گرم

برج : سنبلہ

ستارہ : عطارد

جن : مجیوش

مؤکل : ردیائیل

خواص : نقش یہ ہے

جو کوئی اس اسم پاک کو پڑھ کر دم کرے اس کی دعا قبول ہو۔ سر درد کے لیے اکسیر ہے۔ نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے۔

یَا وَاسِعُ

معنی : وسیع علم والا

۷۸۶

و	ا	س	ع
ع	س	ا	و
ا	و	ع	س
س	ع	و	ا

خاصیت : جمالی

بخور : کافور

برج : جوزا

ستارہ : عطارد

مؤکل : رفتمائیل

خواص :

جو کوئی اس اسم پاک کو کثرت سے پڑھے اور نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ غیب سے روزی پائے۔

یَا حَکِیْمُ

معنی : حکمت والا

خاصیت : جمالی

بخور : زعفران

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیوش

مؤکل : تنکفیل

۷۸۶

ح	ک	ی	م
م	ی	ک	ح
ک	ح	م	ی
ی	م	ح	ک

نقش یہ ہے

خواص :

جب کسی کو کوئی مشکل کام درپیش ہو اس اسم پاک کا ورد کرے

اور نقش کو بازو پر باندھے۔

یَا وَدُوْدُ

معنی : تابعداروں کا دوست

خاصیت : جمالی

بخور : کافور

برج : جوزا

ستارہ : عطارد

جن : پلولوش

مؤکل : رفتمائیل

نقش یہ ہے

٧٨٦

د	و	د	و
و	د	و	د
و	د	و	د
د	و	د	و

خواص :- ١

اگر میاں بیوی میں بن نہ آتی ہو تو اس اسم پاک کو ایک ہزار بار کھانے پر دم کر کے کھلائے۔ موافقت ہو جائے اور اس نقش کو برائے خیر و برکت بازو پر باندھے۔ محبت کے لیے نہایت اچھا ہے۔ ایک تسبیح روزانہ پڑھے ہر دلعزیز رہے۔ اگر کثرت سے پڑھے تو دنیا مسخر ہو جائے ہر شخص فریفتہ محبت رہے۔ خصوصًا گھر والے جانثار ہوں۔

یَا مَجِیْدُ

معنی : بزرگ و برتر

طبع : گرم

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوش

مؤکل : ردیائیل

نقش یہ ہے۔

٧٨٦

٤	١٠	٣	٤٠
٤٠	٣	١٠	٤
١٠	٤	٤٠	٣
٣	٤٠	٤	١٠

خواص :-

جس شخص کو جذام، برص یا بار فرنگ ہو اس اسم پاک کو کثرت سے پڑھے اور پانی پر دم کر کے پیئے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ اس نقش کو بازو پر باندھنے سے ہم چشموں میں عزت پائے گا۔

یَا بَاعِثُ

معنی : پیغمبروں کے بھیجنے والا

برج : جوزا

ستارہ : مشتری

جن : ونوشش

مؤکل : جبرائیل

۷۸۶

۲	۱	۷۰	۵۰۰
۵۰۰	۷۰	۱	۲
۱	۲	۵۰۰	۷۰
۷۰	۵۰۰	۲	۱

نقش یہ ہے

خواص :-

بدخوابی کے لیے اکسیر ہے اگر کسی کا دل مُردہ ہو تو اس کا ورد رکھے انشاءاللہ بہت قوی ہو جائے گی۔ پستی چستی میں بدل جائے گی۔

یَا شَہِیۡدُ

معنی : حاضر

طبع : گرم

بخور : عود

برج : عقرب

ستارہ : قمر

جن : تنیوشش

مؤکل : ہمراکیل

۷۸۶

۸۸	۱۰۲	۹۹	۹۶
۱۰۰	۹۵	۸۹	۱۰۱
۹۴	۹۷	۱۰۴	۹۰
۱۰۳	۹۱	۹۳	۹۸

خواص :-

جس شخص کا بیٹا نافرمان ہو اور بیٹی غیر صالحہ۔ ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھے اور آسمان کی طرف منہ کر کے اکیس بار کہے حق تعالے اس کو صالح کردے گا۔ اور جو اس کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔

یَا حَقُّ

معنی : سزاوار خداوندی

بخور : زعفران

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیوشش

مؤکل : تنکفیل

۷۸۶

۳۶	۴۹	۴۶	۴۳
۴۷	۴۲	۳۷	۴۸
۴۱	۴۴	۵۱	۳۸
۵۰	۳۹	۴۰	۴۵

نقش یہ ہے

خواص :

جس شخص کا مال و اسباب تلف ہو گیا ہو۔ ایک کاغذ کے بیا

کونوں پر لکھ کر برج میں مال واسباب کا نام لکھے اور آدھی رات کو زیر آسمان کھڑے ہو کر کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر اس اسم پاک کا ورد جب تک کر سکے کرے۔ اور اگر کوئی اس کا نقش لکھ کر بازو پر باندھے تو اگر وہ محبوس ہے تو رہائی پائے۔

قیدی پڑھے موافق اعداد کے جلد خلاصی پائے اور عبادت میں بڑا جی لگتا ہے اور ثبات قدم سے اطاعت اللہ کی ہوتی ہے اور حق بات زبان سے نکلتی ہے۔ مخلوق مشورہ حاصل کرتی ہے۔

یَا وَکِیْلُ

معنی : کارساز

خاصیت : جمالی

بخور : کافور

برج : جوزا

ستارہ : عطارد

جن : پوٹوش

موکل : رفتمائیل

۷۸۶

۳۲	۳٦	۳۹	۳۵
۳۸	۲٦	۳۱	۳۷
۲۷	۴۱	۳۴	۳۰
۳۵	۲٦	۲۸	۴۰

نقش یہ ہے

خواص :

اگر ہوا، پانی، آگ یا بجلی گرنے کا خطرہ ہو اس اسم مبارک کا ورد کرنے سے خطرہ دور ہو جائے۔ اس کا نقش اپنے پاس رکھنے والا آفات سے بچا رہتا ہے۔

یَا صَبُوْرُ یَا صَادِقُ

معنی : جلدی نہ کرنے والا۔ سچا کرنے والا

خاصیت : جمالی

برج : میزان

ستارہ : شمس

جن : غلابوش

موکل : اہجائیل

نقش نمبر ۱ یا صبور

ر	و	ب	ص
ص	ب	و	ر
و	ر	ص	ب
ب	ص	ر	و

خواص :- جس کسی کو کوئی رنج و مصیبت پیش آئے بلا ناغہ ۳۳ بار ان دونوں نقشوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پڑھے۔ مصیبت و رنج سے نجات ملے۔ اس کا نقش فصل کی حفاظت کے بھی کام آتا ہے

نقش نمبر ٢ یادق

٧٨٦

٦٥	٦٨	٧١	٥٧
٧٠	٥٨	٦٤	٦٩
٥٩	٧٣	٦٦	٦٣
٦٧	٦٢	٦٠	٧٢

یَا قَوِیُّ

معنی : بڑی قوت والا

خاصیت : جمالی

طبع : خشک

بخور : ترنج

برج : حوت

ستارہ : زہرہ

جن : شمیوس

مؤکل : عطرائیل

نقش یہ ہے

٧٨٦

٧٠	٧٣	٧٦	٦٣
٧٥	٦٤	٦٩	٧٤
٦٥	٧٨	٧١	٦٨
٧٢	٦٧	٦٦	٧٧

خواص :-

اگر کوئی شخص اپنے قوی تر دشمن سے پریشان ہو اور اس کو رفع

کرنے سے عاجز ہو اس اسم کو ایک ہزار بار پڑھے۔

آٹے کی گولیاں بنا کر ایک ایک گولی اٹھائے اور کہے یا قوی اور مرغ آگے ڈالتا جائے۔

اس کو اگر ہر نماز کے بعد موافق اعداد پڑھے۔ دل قوی ہو اگر بہ نیت دفع دشمن پڑھے۔ دشمن مقہور ہوں۔ بڑا قوی الاثر اسم ہے۔

یَا مَتِیْنُ

معنی : استوار کار

خاصیت : جلالی

طبع : گرم

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : فنجیوش

مؤکل : روبائیل

٧٨٦

١٤١	١٤٤	١٤٧	١٣٤
١٤٦	١٣٥	١٤٠	١٤٥
١٣٦	١٤٩	١٤٢	١٣٩
١٤٣	١٣٨	١٣٧	١٤٨

نقش یہ ہے

خواص :-

جس شیر خوار بچے کا دودھ چھڑایا گیا ہو اور وہ روتا ہو یا جن بچے

کو رونے کی عادت پڑ گئی ہو۔ اس اسم ہذا کو لکھے اور دھو کر پلا دے رونے کی عادت جاتی رہے گی اور جو عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہو اس کے گلے میں یہ نقش لکھ کر ڈال دیں یا گھول کر پلا دیں۔ فرمانبردار ہو جائے گی۔

یَا وَلِیُّ

معنی : مددگار

خاصیت : جمالی

بخور : کافور

برج : جوزا

ستارہ : عطارد

جن : پولوش

مؤکل : رفتمائیل

۷۸۶

۲۷	۳۱	۳۴	۲۰
۳۳	۲۱	۲۶	۳۲
۲۲	۳۶	۲۹	۲۵
۳۰	۲۴	۲۳	۳۵

نقش یہ ہے

خواص :

اس اسم پاک کا ورد کرنے والا مخلوق خدا کی نظروں میں عزت پائے گا۔ اگر بیوی بد عادت رکھتی ہو۔ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے خوش خلق ہو جائے۔ ذاکر اس کا مخلوق کی باتوں پر آگاہ ہو جاتا ہے۔

یَا حَمِیْدُ

معنی : حمایت و امانت کرنے والا

خاصیت : جمالی

بخور : زعفران

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیوش

مؤکل : تنکفیل

۷۸۶

د	ی	م	ح
ح	م	ی	د
ی	د	ح	م
م	ح	د	ی

نقش یہ ہے

خواص :

جو کوئی فحش گوئی و فحش کلامی کا عادی ہو۔ بد زبان ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس اسم کو چینی کے پیالے پر زعفران اور گلاب کے محلول سے ۹۹ بار لکھے اور اس کو گھول کر پی جائے۔ یہ عادت بد جاتی رہے گی۔ روزانہ بعد نماز اگر پڑھ لیا کرے۔ ہر شخص تعریف سے یاد کرے لوگوں میں وقار۔ برے افعال سے نجات۔ پسندیدہ افعال پیدا ہوں۔ جس کا نام محمود ہو اس کے واسطے اس کا ذکر نہایت اچھا ہے۔

Scanned with CamScanner

یا مُحصی

معنی : گھیرنے والا

خاصیت : جمالی

طبع : گرم

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوش

مؤکل : روبائیل

۷۸۶

۱۰	۹۰	۸	۴۰
۴۰	۸	۹۰	۱۰
۹۰	۱۰	۴۰	۸
۸	۴۰	۱۰	۹۰

خواص :- نقش یہ ہے

جو کوئی شب جمعہ کو ایک ہزار ایک بار پڑھے عذاب گور سے نجات پائے اگر یہ نقش اپنے پاس رکھے تو بہتان سے بچا رہے۔

یا مُبدِئُ

معنی : ابتدا کرنے والا

خاصیت : جلالی

طبع : گرم

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوش

مؤکل : روبائیل

۷۸۶

۳۳	۳۶	۳۹	۲۶
۳۸	۲۷	۳۲	۳۷
۲۸	۴۱	۳۴	۳۱
۳۵	۳۰	۲۹	۴۰

خواص: نقش یہ ہے

جس شخص کی بیوی حمل سے ہو اور اسقاط کا ڈر ہو اس اسم کو صبح کے وقت نوسے ہزار مرتبہ پڑھے اور اس نقش کو لکھ کر گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ حمل ساقط ہونے سے محفوظ رہے گا۔

یا مُمِیتُ

معنی : مارنے والا

خاصیت : جمالی

طبع : گرم

برج : اسد

ستارہ : عطارد

جن : مجیوش

۷۸۶

۴۰۰	۱۰	۴۰	۴۰
۴۰	۴۰	۱۰	۴۰۰
۱۰	۴۰۰	۴۰	۴۰
۴۰	۴۰	۴۰۰	۱۰

مؤکل : رویائیل

خواص :

جو کوئی اپنے نفس پر قادر نہ ہو اس کو چاہیئے کہ اس اسم کو اس قدر پڑھے کہ پڑھتے پڑھتے سو رہے۔ حق تعالےٰ اس کے نفس کو فرمانبردار کرے گا۔ اس نقش کو پاس رکھنے والے پر کوئی جادو اثر نہ کرے گا۔

یَاحَیُّ

معنی : زندہ

خاصیت : جمالی

بخور : زعفران

برج : جدی

ستارہ : زحل

جن : عیبوش

مؤکل : تنکفیل

نقش یہ ہے

۷۸۶

ی	ح	ل	ا
۱۵	۹	۲	۲۳
۴	۲۶	۱۲	۷
۲۰	۶	۵	۱۸

خواص :-

اگر کوئی شخص بیمار ہو اس اسم کو کثرت سے پڑھے۔ شفا پائے۔

آفات سے بچا رہے۔

یَاقَیُّوْمُ

معنی : قائم رکھنے والا

خاصیت : جمالی

طبع : خشک

بخور : ترنج

برج : حوت

ستارہ : زہرہ

جن : شمہیوش

مؤکل : عطرائیل

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۹۹	۸	۳۸	۱۱
۳۹	ی ۱۰	ق ۱۰۰	۷
۱۳	م ۴۰	و ۶	۹۷
۵	۹۸	۱۲	۴۱

خواص :

جو کوئی اس اسم کو کثرت سے پڑھے جملہ مطالبات و خواہشات حسب دلخواہ بر آئیں۔

بعد نماز فجر پڑھتا رہے۔ مخلوق میں تصرف ظاہر ہو۔ مخلوق محبوب رکھے اور اگر یاحی یاقیوم دونوں کو ملا کر ۲۱۵ مرتبہ پڑھے۔ مخلوق اس سے ملے اور جو بات زبان سے نکالے شرطیہ بفضلہ تعالےٰ پیدا ہو۔

Scanned with CamScanner

بزرگی اور جلال پیدا ہو۔ عام خلائق دوستی کا دم بھرے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

یَا ظَاهِرُ

معنی : آشکارا
طبع : خشک
بخور : گل نسرین
برج : حوت
ستارہ : عطارد
جن : عفوکیکش
موکل : نورائیل

۷۸۶

ر ۲۰۰	ہ ۵	۱۱	ظ ۹۰۰
۲۹۸	۴۰۱	۱۰۲	۱۰۵
۴۰۴	۱۰۰	۵۰۳	۹۹
۴	۶۰۰	۵۰۰	۲

خواص :-

جو کوئی شخص بعد نماز اشراق کے اس اسم معظم کو پانچ سو بار پڑھے نیک کاموں کے ذریعے شہرت پائے گا۔ پوشیدہ راز معلوم ہوں آنکھیں منور ہوں۔ بڑا اچھا عمل ہے۔ زکوٰۃ سوا لاکھ اوّل ادا کرے

یَا بَاطِنُ

معنی : پوشیدہ
برج : جوزا
ستارا : مشتری
جن : دنوش
موکل : جبرائیل

۷۸۶

۵۰	۹	۱	۲
۲	۱	۹	۵۰
۹	۵۰	۲	۱
۱	۲	۵۰	۹

نقش یہ ہے

خواص :-

جو کوئی اس اسم پاک کو ہزار بار روزانہ تلاوت کرے صاحب اسرار ہو۔ اس کا باطن کشادہ ہو۔ ہر شخص عظمت کرے اور ہر ایک خوف سے نڈر ہو جائے۔

یَا عَفُوُّ

معنی : معاف کرنے والا
خاصیت : جمالی

Scanned with CamScanner

طبع : سرد

برج : سنبلہ

ستارہ : مشتری

جن : قشیوش

مؤکل : لومائیل

۷۸۶

و	ف	ع	ال
۶۹	۳۲	۵	۸۱
۳۳	۷۲	۷۸	۴
۷۹	۳	۳۴	۷۱

خواص :-

اس اسم کے ورد سے سکونِ قلب ملتا ہے اس کے نقش کو پاس رکھنے والے کو تلوار کا زخم نہیں لگتا۔ ۱۵۶ بار پڑھے اللہ کی رحمت جوش میں آکر پروردگار گناہ معاف فرما دیتا ہے بڑا غفور الرحیم ہے۔

یَا هَادِیُ

معنی : راہ دکھانے والا

طبع : گرم

بخور : صندل سفید

برج : حمل

ستارہ : مشتری

۷۸۶

ی	د	ا	ھ
ھ	ا	د	ی
د	ی	ھ	ا
ا	ھ	ی	د

جن : رہوش

مؤکل : دوریائیل

خاصیت : جمالی

۷۸۶

ی	د	ا	ھ
ھ	ا	د	ی
د	ی	ھ	ا
ا	ھ	ی	د

خواص :

دافع بلیات۔ اس کے نقش کو باندھنے سے مرض ضیق النفس سے نجات پائے۔

اگر راستہ بھول گیا ہے اس کو پڑھنا شروع کرے۔ انشاءاللہ اس کا دل گواہی دے گا۔ کہ یہ راستہ صحیح ہے ورنہ کوئی شخص تبلا دے گا۔

اسمائے مُبارکہ نبی کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم

حضور نبی کریم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے اسمائے گرامی کا وظیفہ کرتے وقت اوّل اور آخر آپ پر درُود وسلام بھیجیں اور اپنی مشکلیں آسان فرمادیں اور آپکے اسمائے گرامی کا ورد کریں۔ اور خدا کی نعمتوں سے فائدے حاصل کریں۔

مُحَمَّدٌ

غریب آدمی اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے اس نام پاک کو چار سو مرتبہ روزانہ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ خدا کے فضل وکرم سے غنی ہو جائے گا۔ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔

اَحْمَدُ

اس اسم پاک کو روزانہ پانچ سو مرتبہ ورد کریں تو تمام دنیا مطیع و فرمانبردار ہوجائے گی۔ عزت ہوگی۔

حَامِدٌ

اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس نام پاک کا ورد کرنے والے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اسکے لیے قیامت کے دن جنت کے دروازے کھول دے گا۔ جس دروازے سے چاہے گا گزرے گا۔

مَحْمُوْدٌ

اس اسم پاک کے پڑھنے سے غریبی، مفلسی، محتاجی دُور ہو جاتی ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔

قَاسِمٌ

اس اسم پاک کا ورد کرنے والے کو اللہ پاک عالم بنا دیتا ہے اور سینہ علم کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔

عَاقِبٌ

کوئی بھی آرزو ہو اللہ پاک اس اسم کے ورد کرنے والے کی

Scanned with CamScanner

خواہش پوری کرتا ہے۔

فَاتِحٌ

اس نام پاک کو روزانہ پڑھا کریں تو قربتِ الٰہیہ حاصل ہوگی۔ اور مشکل آسان ہوگی۔ فتح و نصرت آپ کے قدم چومے گی۔

خَاتِمٌ

اتوار کے روز ستر مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں تو ہر مراد پوری ہو گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

حَاشِرٌ

اس نام پاک کے ورد کرنے سے کوئی طالب علم کمزور نہیں رہے گا۔ حافظہ تیز ہوجائے گا۔ علم میں ترقی ہوگی۔

مَاحِ

روزانہ پڑھنا چاہیئے۔ تاکہ حشر کے روز حساب و کتاب میں آسانی ہوگی۔

دَاعِ

اس نام پاک کو پڑھا کریں۔ دنیا میں عزت اور ہر دلعزیزی حاصل ہوگی۔

بَشِیْرٌ ، سِرَاجٌ

ہمیشہ پڑھنے والے کی قبر روشن ہوگی۔ اور قبر کے حساب کتاب میں آسانی ہوگی۔

رَسُوْلٌ

جب کسی مالی پریشانی میں پڑ جائیں تو روزانہ اس نام پاک کا ورد کیا کریں اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گا۔

طٰہٰ

اس اسم کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ پاک گھر میں برکت نازل فرمائے گا۔ اور بڑے بڑے عقدے حل ہوں گے۔ اور کثرت سے روزی آئے گی۔

Scanned with CamScanner

هَادٍ ، مُهْدٍ

صراطِ مستقیم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ اس اسم پاک کو پڑھا کریں۔

نَکِیْرٌ

عذابِ قبر سے محفوظ رہنے کے لیے اس نام پاک کا کثرت سے ورد کیا کریں۔ قبر میں آسانی ہوگی۔

نَبِیٌّ

عرفانِ حق حاصل کرنے کے لیے اس اسم پاک کو ہمیشہ پڑھا کریں۔ اللہ پاک وجد میں آئے گا۔

خَلِیْلٌ

اگر کسی کو بُرے خواب دکھائی دیتے ہوں تو اس اسم پاک کو روزانہ سوتے وقت ۱۱ بار پہلے پڑھ لیا کریں۔ کبھی قریب ہی نہ آئیں گے۔

یٰسٓ

اگر آدھی رات کو ننگے سر ہوکر ۱۴۱ بار پڑھے گا تو اللہ پاک ہر مراد پوری کرے گا۔

مُزَّمِّلٌ

اس نام کو نادار مفلس کو چاہیئے کہ روزانہ پڑھا کرے مفلسی دُور ہوگی۔ اللہ پاک اپنے غیب سے روزی دے گا۔

وَلِیٌّ

اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نام پاک کا وظیفہ کریں۔

نَصِیْرٌ

سفر میں اس نام پاک کو پڑھیں تھکن نہ ہوگی اور سفر آسان ہو جائے گا۔ اور سفر خیر و عافیت سے گزرے گا۔

Scanned with CamScanner

حمیدؓ

بُری عادتوں سے بچنے کے لیے اس نام کو وردِ زبان بنا لیں۔

حکیمؓ

بُری عادتوں والا اس نام کو پڑھے تو اچھی عادتوں والا بن جائے گا۔

مدثرؓ

اس نام مبارک کو پڑھنے والا ابلیس کے مکر و شر سے محفوظ رہے گا

مصورؓ

اس نام مبارک کو صبح ہوتے ہی دس بار پڑھیں سارا دن جھوٹ زبان سے نہ نکلے گا۔

حبیبؓ

ایک ہزار بار روزانہ وِرد کریں تمام عالم مسخر ہو جائے گا۔ اور دنیا میں منظور و مقبول ہو گا۔

حجۃ اللہؓ

کسی بھی ضرورت کے لیے اس نام کا ورد کرے۔ اللہ پاک پُورا کرے گا۔

کلیمؓ

روزانہ پڑھے کرے تاکہ اللہ تعالےٰ اس کو فصیح اور بلیغ بنا دیگا

شہیدؓ

اس نام مبارک کو دانتوں میں مسواک کرنے کے وقت پڑھا کریں دانت بڑھاپے میں بھی قائم رہیں گے۔

مصطفیٰؓ

نیک کاموں کی توفیق کے حصول کے لیے اس نام کا ورد کریں۔

بیانؓ

عقل مندی اور سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اس نام کا ورد

Scanned with CamScanner

کرنا افضل ہے

مُرْتَضٰی

تمام آفاتِ ارضی و سماوی سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ پڑھیں

قَائِمُ

اگر بارش نہ ہوتی ہو تو رات کے وقت ایک ہزار مرتبہ پڑھیں۔ انشاء اللہ ضرور بارش ہوگی۔

مُخْتَارُ

شہریاری اور بلند مرتبہ حاصل کرنے کے لیے روزانہ پچاس بار پڑھے

حَافِظُ

تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔

عَادِلُ

اس نام پاک کی برکت سے پڑھنے والا ہر جگہ قدر کی نگاہ سے

دیکھا جاتا ہے۔

صَادِقُ

آسیب کو دور کرنے کے لیے اس نام مبارک کو پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑکیں۔

نُوْرُ

جو شخص روزانہ بلا ناغہ پڑھا کرے گا خواب میں ہرگز نہ ڈرے گا۔

وَاعِظُ

جو شخص رمضان شریف میں سو بار روزانہ پڑھا کرے گا خداوند کریم اس کی ہر عبادت قبول کرے گا۔

مَتِیْنُ

اس اسم مبارک کے پڑھنے سے دلی مقاصد پورے ہوتے ہیں حاملہ عورت کے پیٹ پر روزانہ ۱۴ دن انگلی سے لکھنا انشاء اللہ تعالیٰ ایک صالح ارجمند پیدا ہوگا۔ آزما کر دیکھ لیں۔

Scanned with CamScanner

صَاحِبٌ

اس اسم کو پڑھ کر مریض پر دم کریں اللہ پاک شفا دے گا ۔

بُرْھَانٌ

اس نام کو پڑھنے سے مفلسی دور ہو جاتی ہے ۔

نَاطِقٌ

دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے ہر روز پڑھا کریں ۔

مَکِیْنٌ

اس وظیفے کو پڑھنے والا آنکھ کی روشنی کم ہونے سے محفوظ رہتی ہے

رَءُوْفٌ

اس نام کو پڑھ کر جس حاکم کے پاس جائیں گے وہ عزت سے پیش آئے گا ۔

مُطِیْعٌ

اس نام کے پڑھنے سے خداوندِ عالم گناہ سے معاف فرمائے گا ۔

مُرَبِّیٌ

اس اسم پاک کو بچھو، سانپ اور پاگل کتے وغیرہ جانوروں کے ڈسے ہوئے پر دم کرنے سے شفا ہو جاتی ہے ۔

اٰمِیْنٌ

اس اسم مبارک کو پڑھنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا ۔

یَتِیْمٌ

اس نام کو پڑھ کر زخموں پر دم کریں قدرتاً زخم مندمل ہو جائیں گے

حِجَازِیٌّ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس لفظ کو پڑھا کریں ۔

کَرِیْمٌ

بے روزگار اس نام کو پڑھا کرے خداوند عالم اسے روزگار

Scanned with CamScanner

عطا فرمائیں گے۔

غَرِیْبُ

اس اسم کو ۱۴ بار پڑھ کر پاگل کتے پر پھونک ماریں تو وہ پھر کسی پر حملہ نہ کرے گا۔

عَلِیْمُ

اس نام پاک کے ورد سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔

عَزِیْزُ

برائے ہردلعزیزی وغنا ظاہری وباطنی طالب پڑھے تو مطلوب حاصل ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اس کی تعریف لکھنا کوئی معمولی بات نہیں یہ کلام پاک کی کنجی ہے۔ ابتداء کلام پاک کی اس سے شروع ہوتی ہے اور کام کا انجام بخیر وخوبی پورا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر صرف اسقدر لکھ دینا کافی ہے کہ حضرت سلیمان نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بلقیس کا تخت حاضر ہونے سے پہلے حاضر کرنے کا اجنّہ کو حکم دیا تھا۔ فوراً ایک جن نے وعدہ فرمایا۔ اور بلقیس کے حاضر ہونے سے قبل تخت لا حاضر کیا۔ جس کو وہ خود محفوظ کر کے آئی تھی۔ قصہ طول طویل ہے۔ وہ یہی۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اسم اعظم شریف تھا۔ اب اس کے فوائد سنیئے

برائے ترقی تنخواہ

روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ شریف کی پڑھ لیا کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اضافہ ہوجائے گا اور جو مقصد دلی ہوگا پُورا ہوگا۔

Scanned with CamScanner

فائدہ :- یہ عمل حضرت قطب الاقطاب مسجد بی بی صاحبہ فرخ آباد کا عطیہ اور اجازت ہے خلوص دل سے پڑھنا چاہیئے اور عجز و انکساری کے ساتھ رب العزت سے دعا مانگنا چاہیئے قبول ہوگی۔

حاجت روائی

روزانہ بسم اللہ شریف کو (۷۸۶) مرتبہ پڑھیئے ایک ہفتہ نہ گزریگا حاجت پروردگار عالم پوری کرے گا۔ بڑی مؤثر اور لاجواب چیز ہے۔

حفاظتِ شیطان

سوتے وقت اکیس بار پڑھ کر سو رہے۔ پھر کسی سے بات چیت نہ کرے شب بھر شیطان سے محفوظ رہے ۔ لاکھوں بار اس کا تجربہ ہو چکا ہے

ظالم کے دل میں ہیبت

کسی ظالم کے سامنے پچاس مرتبہ پڑھنے سے اس کے دل میں ہیبت اور خوف پیدا ہو اور اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

امیر و کبیر ہو جانا

وقت طلوع آفتاب اوّل تین صد بار درود شریف پڑھے اور پھر بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تین صد بار پڑھے اور روزانہ اسکو برابر بلاناغہ پڑھتا رہے ایک سال کے اندر اندر انشاء اللہ امیر کبیر ہو جائے گا۔

ہدایت :- اگر غسل کی حاجت پیش آجائے قبل طلوع آفتاب غسل کر لینا ضروری ہے۔ ورنہ اثرات زائل ہوجائیں۔

ذریعہ خواب اِسرار منکشف ہو جانا

بعد نمازِ فجر روزانہ ایک چلّہ تک بہ پابندی وقت ڈھائی ہزار مرتبہ روزانہ پڑھے جو بات دنیا میں ہونے والی ہوگی۔ قبل از وقت معلوم ہو جائے گی۔ یعنی اس بات کا علم خواب کے ذریعہ ہو جایا کرے گا۔ نیز عجیب عجیب باتیں انکشاف میں آئیں گی۔ جس کا اظہار مناسب نہیں۔

مخلوق کی نظر میں وقار

۶۲۵ مرتبہ وقت طلوع آفتاب یا بعد نماز سیاہی قلم کاغذ پاک پر لکھ کر تعویذ بنا کر ٹوپی میں رکھ لیں بڑی عزت ہوگی۔ لوگوں کے

Scanned with CamScanner

دلوں میں خوف پیدا ہو گا نیز کوئی شخص نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اکثر فقرات اس کے فوائد کی تعریف میں انتہائی رطب اللسان ہیں۔

تسخیر نظر

روزانہ چالیس روز تک طلوع آفتاب کے وقت نظر جما کر سورج کے سامنے آنکھ قائم رکھ کر یک صد بار بسم اللہ شریف پڑھیں۔ آنکھ میں بجلی کی طاقت پیدا ہو جائے گی جس شخص پر نظر ڈالے گا۔ اور بسم اللہ الرحمٰن الرحیم چند بار پڑھے گا اور دل میں یہ خیال کرے گا کہ فلاں شخص میری طرف چلا آئے وہ شخص چند منٹ کے واسطے آکر بیٹھ جائے گا پھر روزانہ معمول بنالیں کسی ایک وقت مقررہ پر یک صد بار روزانہ قبل نماز ظہر یا بعد نماز عشاء پڑھتے رہیں۔ اب سورج پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہزارہا تصدیقات اس کی آئی ہیں۔

فائدہ:-

بسم اللہ شریف میں اسم اعظم مخفی ہے۔ صدق دل سے پڑھنے والا کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ ہر مرض کی دوا اور ہر مرض کی شفا ہے جو کام مقصود ہو۔ پاک ہو۔ صاف ہو۔ نیت میں خلوص اور درد ہو تاکہ مراد پوری ہو۔

کشفِ قلوب

اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ عالم میں جو بات ہونے والی ہو اس کا مجھے علم ہو جایا کرے اسے چاہیے۔ کہ ہر نماز کے بعد بصد خشوع ایک تسبیح بعد نماز تہجد یا اللہ ضرب کے ساتھ تنہائی میں یکسوئی حاصل کرتے ہوئے دل کو متوجہ ہمہ تن بنا کر روزانہ پڑھ لیا کرے۔ خدا کے فضل و کرم سے چند روز کے بعد کشفِ قلوب ہونے لگتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے کوئی بات زبان سے نکالی دل میں وہ بات آگئی اور وہی بات ظہور میں آئے گی۔ اس کے خلاف ہرگز نہ ہو گا۔ یا فلاں شخص ملازمت کی کوشش کر رہا ہے۔ ہو گا یا نہیں۔ دل میں خود بخود آجائے گا۔ اگر اس کی مداومت کر لی تو وہ درجہ حاصل ہو جائے گا جو پیر دل کے پاس جانے سے ہوتا ہے کہ آپ پہونچے اور ان کے ذہن میں بات آگئی کہ یہ فلاں غرض کے واسطے آیا ہے رفتہ رفتہ یہ نوبت انشاءاللہ پہنچے گی کہ جو بات زبان سے نکلے گی وہ ہو کر رہے گی۔ اور زبان میں ایک ایسی خاصیت ہو جائے گی جس کا لکھنا کچھ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اتنا خیال رکھے کہ عجز و انکساری کو پیش نظر رکھیں۔ خواہش نفسانی اور تکبر و غرور کے حملے سے بچتے رہیں۔ حب مخلوقِ خدا

Scanned with CamScanner

فائدہ پہنچتا ہے۔ ہجوم ہوتا ہے اس وقت زبان سے ایسے کلمات نہ کہہ ڈالیں جو اللہ پاک کو برے معلوم ہوں۔ یہ ایک بڑا راز ہے جس پر آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے جو لوگ تحفہ پیش کریں۔ خدا کا شکر بجا لائیں اور قبول فرمادیں۔ اولیاء اللہ اور بزرگانِ دین کا ہمیشہ معمول اسم ذات کا رہا ہے اور اسی کی بدولت سب کچھ پایا ہے۔

مشرف بہ زیارتِ بزرگانِ دین

روزانہ جبکہ سونے کا وقت ہو۔ اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو کر سونے کے واسطے جائیں اس وقت ایک تسبیح سورۂ اخلاص کی اور ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ کی لیٹے لیٹے پڑھ کر سو جائیں اور پھر کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اس کا بہت زیادہ خیال رہے اگر بات چیت کی ضرورت پڑ جائے ہرگز نہ بولیں اور گھر میں کہہ دیں کہ میں بول نہیں سکتا۔ ہاں اگر خدانخواستہ کوئی ایسی ضرورت پیش آجائے جو خطرہ کی ہو مضائقہ نہیں روزانہ انشاء اللہ مشرف بہ زیارت بزرگانِ دین ہوں گے اور بڑے سے بڑے لطف سے بہرہ اندوز ہوں گے۔ عرصہ تک میرا معمول رہا

ہے۔

کسی مقدمہ میں ماخوذ ہو جانا

يَا رَحْمٰنَ كُلِّ شَيْءٍ وَّوَارِثَهٗ وَرَاحِمَهٗ يَا رَحْمٰنُ ۔

خدانخواستہ کسی مقدمہ میں ماخوذ ہو جائے موقع ہو تو خود پڑھ ڈالے اور اگر خود مجبور ہے اپنے ماں باپ بھائی یا عزیز و اقارب سے پڑھوا لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بلا اخذ جواب بری ہو گا۔ روزانہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر بارہ ۱۲ سو مرتبہ پڑھنا چاہیئے دو ہفتہ نہ گزریں گے کہ خود بخود انشاء اللہ چھوٹ جائے گا۔ تدابیر ضروریہ عمل میں لاتا رہے۔ دنیا عالم اسباب ہے۔

فائدہ:- سرقہ میں اور بعض تغلب میں اور بعض فوجداری میں ماخوذ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا۔

Scanned with CamScanner

سُورہ یٰسٓ شریف

جو شخص روزانہ سورہ یٰسٓ شریف کو اپنا اس طرح وردِ بنالے کہ ایک مرتبہ قبل نماز فجر اور پھر ایک بار بعد نماز فجر، اسی طرح ہر نماز سے قبل اور بعد ایک ایک بار۔ یہ دس بار ہوئے گویا دس مرتبہ اُس نے سورۃ پڑھی۔ اگر تم ہو سکے تو صبح کو سات بار اور شام کو تین بار پڑھیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ مزاج میں استقلال اور لاپرواہی پیدا ہو جائے گی۔ روزانہ خرچ کا انتظام خود بخود ہو گا۔ نہ یہ حاجت رہے گی کہ کل کیا ہو گا۔ حتیٰ کہ شادی بیاہ اور تمام ضرورتیں خود بخود پوری ہونگی۔ افسران خوش رہیں گے۔ ہر بات اور ہر مشورہ کو مخلوق صحیح مانے گی اور اس پر عملدر آمد کرے گی۔ کتنی قلیل المعاشی ہو۔ غیب سے سامان ہوتا رہے گا۔ اگر صاحب اولاد ہے سب اچھی حالت میں رہیں گے۔ اور ہمیشہ خواب میں اپنے والدین کو اچھی حالت میں دیکھے گا چہرہ پُر جلال رہے گا۔ اور ہر شخص قدر و منزلت کرے گا۔ جس مریض پر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کرے گا شفا حاصل ہو گی۔

اللہ پاک نے عجیب و غریب صفات اس سورۃ میں مخفی رکھی

ہیں جس قدر تعداد اس کی بڑھتی جائے گی۔ اسی قدر فائدہ مترتب ہوتا چلا جائے گا۔ نہایت خلوص کے ساتھ روزانہ پڑھتے جائیں۔

فریفتگیٔ محبّت

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ ط

یہ عمل نہایت سریع الاثر ہے اور بارہا اسکی آزمائش ہوئی۔ غضب کا تیر بہدف ثابت ہوا ہے۔ طریقہ اس کے پڑھنے کا یہ ہے کہ طالب و مطلوب کا نام معہ والدہ کے ملا کر پڑھنا چاہیئے۔

مثال:۔

والقیت علیك محبة منی ط مریم بن خولہ علی حب محمد علی بنت سعیدہ۔ اس طرح پڑھنا چاہیئے اور روزانہ ایک وقت مقرر کر کے (پانصد بار) اوّل و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھیں وقت کے خلاف نہ ہو۔ اکیس دن تک پڑھنا چاہیے۔ تین ہفتہ کے اندر انشاء اللہ مطلوب مسخر ہو جائے گا اور ایسا مسخر ہو گا کہ جان دے گا۔ طالب کتنی ہی لاپرواہی برتے لیکن مطلوب اپنے طرزِ عمل

نہ بدے گا۔ ناجائز ارتکاب نہ کرے ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان
ہوگا۔ اگر شادی کرنا مقصود ہو اور خلاف ہو اُس کے لیے پڑھیں
خود بخود رضامند ہوجائے گا۔ بعد تکمیل عمل پھر پیام دیں کامیاب
ہوں گے روزانہ بعد طلوع آفتاب ایک گھنٹہ کے اندر پڑھنا چاہیئے
اور قواعد کے مطابق کریں۔

مطلوب کا خود بخود قربان ہونا

اس عمل سے اہل ہنود صاحبان مستفید ہوں گے آزمائش کردہ اور
بڑا تیز جادو اثر عمل ہے۔ جس روز تیلی مرے اس کی فکر میں رہے اور
ساتھ ساتھ جائے یا پتہ لگا آئے کہ فلاں جگہ آگ دی گئی ہے رات
کو کسی وقت جاکر اس جلتے ہوئے میں سے کوئلہ نکال کر اور جو ہانڈی
آگ سے بھری لیجاتے ہیں اسکو پھوڑ کر اسی کوئلہ سے وہیں بیٹھکر
طالب و مطلوب کا نام معہ والدہ لکھ کر اپنے ساتھ لے آئے اور
اسکو چولھے کے اندر جہاں روٹی ٹکتی ہے دبائے اس پر آگ برابر
جلتی رہے۔ جبتک یہ ٹھیکری گرم رہے گی مطلوب کی نیند حرام ہوگی
خود بلاکر اپنا فریفتہ محبت ہونا ظاہر کرے گا۔

دستِ غیب با امداد خداوندی

یہ عمل بقید ترک حیوانات بعد نماز تہجد ماہ ثابت عروج ماہ اول نوچندی
جمعرات سے روزانہ چالیس دن تک گوشۂ تنہائی میں خواہ مکان خواہ
مسجد میں ایک مقام خاص کرکے پڑھنا چاہیئے نہ اُس مقام پر کوئی شخص
جائے نہ اس کا کسی کو علم ہو اور نہ گھر والوں کو اس کا علم کرایا جائے روزانہ
کی آمد روزانہ خرچ کردی جائے۔

وہ عمل یہ ہے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَسْتَغِيْثُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِيْنَ ط

اوّل آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پھر چودہ تسبیح یہ آیت شریف۔ بعد
ختم دعا مانگے۔

اگر بقید ترک حیوانات پڑھنا منظور نہیں ہے تو بعد نماز عشاء پانچ
صد مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے۔ انشاء اللہ غیب سے امداد ہوگی۔

Scanned with CamScanner

بعد نمازِ عشاء غیبی امداد

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ سورۂ طلاق پہلا رکوع کلام پاک سے دیکھ کر یاد کر لیں۔

ترکیب: نمازِ عشاء سے فارغ ہو کر اس کو پڑھنا چاہیئے۔ دو رکعت نماز نفل۔ اول سورہ فاتحہ۔ پھر آیت شریف پچاس بار۔ دوسری رکعت بھی اسی طرح بعد سلام کے دعا مانگے۔

فائدہ:۔ افزائش بے گمان رزق کے لیے یہ عجیب چیز ہے۔ روزانہ پڑھتا رہے۔ اور شکر خدا بجا لائے۔ میری زبان تعریف سے قاصر ہے۔ اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس کی تصدیقات کثرت سے آئیں۔

بڑا برکت والا عمل

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

پڑھنے کا طریقہ:۔ روزانہ بعد نماز فجر اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اور ایک سو ایک مرتبہ آیت مذکورہ۔ رزق میں برکت اور فراخی ہو گی۔ غیب سے اللہ پاک مدد فرمائے گا۔

۲:۔ زیادہ پڑھنے سے ارتکاب معصیت سے محفوظ۔ قبر میں روشنی حفاظت اور نگہبانی۔ اعمال حسنہ کرنے کی طاقت پیدا ہو گی۔ اور یا حق اور یا مبین کے جو صفات ہیں وہ سب حاصل ہوں گے۔ ایک عرصہ سے میرا معمول ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

ہر عمل میں خلوص نیت اور عجز و انکساری محبت خدا و رسول ضروری ہے اگر یہ بات نہیں ہے تو دنیا کے وظائف ہیچ ہے۔

سحر خلائق

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِنُصْرَةِ الضُّعَفَاءِ وَالْخَلْقِ عَجْزٌ وَّعَنْ ذَالِكَ ط اَللّٰهُمَّ سُدَّ لِسَانَ اَعْدَائِيْ وَلَا تُشْمِتْ بِهِ الْاَعْدَاءَ وَاظْفُرْ لِيْ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَعْدَاءِ قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ اللّٰهُ

بِجَلِیْلَتِہٖ وَلَوْکَرِہَ الْمُجْرِمُوْنَ وَصَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی
خَیْرِ خَلْقِہٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ ط
بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ہ

اس دعا کو روزانہ پانچ بار کسی وقت پڑھ لیا جائے۔ عام مخلوق اچھی نظر سے دیکھے گی۔ زبان بندی۔ صحت یابی گفتگو اور خیر کی بات زبان سے نکلے گی۔

وُسعتِ رزق

اَللہُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِہٖ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ وَھُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ ہ

کشائش رزق کے واسطے بڑا سریع التاثیر عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بافراغت رزق عطا فرماتا اور خوب برکت ہوتی ہے۔ روزانہ کسی وقت مقررہ پہ ایک تسبیح بعد نماز پڑھ لینا کافی ہے۔

فائدہ:۔

پڑھ کر دیکھئے۔ پردۂ غیب سے اللہ تعالےٰ کس قدر نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے کہ عملیات کو بازیچۂ

اطفال نہ بنایا جائے اس لیے کہ اس چودھویں صدی کی پود کلام پاک اور نماز سے کوسوں دور بھاگتی ہے۔ خاطر خواہ نتیجہ اس صورت میں نکلنا غیر ممکن ہے۔

ہزاروں کام کا جائز منتر

اس عمل کو مسمریزم سمجھنا چاہیئے۔ ایک بنگالی جادوگر کا عطیہ ہے ہر کام تیر بہدف چلتا ہے۔ زبان بندی مقہوری اعدا، حفاظت خود اختیاری وغیرہ میں از بس مفید ہے۔

نظر بند کے بجر بند۔ شاہ علی کا بجر بند۔ کیدا بند۔ تلوار بند۔ سرکار بند۔ سرکار کی زبان بند۔ سانپ بند۔ سانپ کی زبان بند۔ اُپر بند۔ اُپر کی زبان بند۔ اگاڑی بند۔ پچھاڑی بند۔ کھانے کی آئی بند۔ بہتر کروس کے جیو جنتر بند۔ بحق کلمہ لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ ط روزانہ ۲۵ مرتبہ پڑھا کریں۔

اس کو عام لوگوں نے پڑھا اور فائدہ اٹھایا۔ انسان محفوظ رہتا ہے اور خوش رہتا ہے۔

پُرتاثیر نقشِ برائے شفا امراض

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یہ نقش پندرہ کا ہے۔ چالیس یوم تک روزانہ بعد نماز فجر اکتالیس بار اس نقش کو لکھا جائے اور روزانہ ایک تعویذ رکھ کر چالیس تعویذ آرد گندم میں گولی بنا کر دریا میں روزانہ ڈال دیا کرے چالیسویں دن اکتالیس نقش ڈالے جائیں۔ اس لیے کہ روزانہ ایک نقش بچتا رہے گا۔ یہ زکوٰۃ اس عمل کی ہو گئی اب روزانہ پانچ تعویذ لکھ کر تالاب یا دریا میں ڈالتا رہے تاکہ عمل سریع الاثر رہے۔ جس مرض میں آپ لکھ کر دیں گے صحت ہو گی۔ بڑی بے نظیر چیز ہے۔ شفا یابی مرض کے واسطے ایک بزرگ صرف اسی تعویذ سے کام لیتے تھے اور میرے مشاہدہ میں اس سے بہتر تعویذ نہیں آیا۔ اطبا کو چاہیئے کہ وہ اس نقش سے کام لیں خواہ گھول کر پلائیں یا بازو پر باندھیں۔

تیر بہدف عمل حاجات دینی و دنیاوی

روزانہ ایک بار صبح ایک بار شام سورۂ یٰسین شریف پڑھ لیا کریں۔ تمام آفات سے حفاظت رہے گی۔ اور فراخی رزق ہو گی ہر کام بخیر و خوبی پورا ہو گا۔ تمام لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے نیز کوئی شخص نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ جو دعا مانگے گا قبول ہو گی۔

خوب یاد رکھیئے کہ کلام پاک کا قلب سورۂ یٰسین شریف ہے۔ مصنف کا معمول ایک وقت کا ہے اور بہت فائدہ اس کے پڑھنے سے پہنچ رہا ہے آپ کو اس کے پڑھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

عشقِ اوّل دَر دلِ معشوق پیدا میشود

اس قاعدہ کو پیش نظر رکھ کر ایسی تدبیر آسان پیدا کریں۔ جس سے مطلوب فریفتۂ محبت بن جائے۔ سنیئے

قلب کی تسخیر کے لیے نظر سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں دوسرے اس سے اپنی محبت کا اظہار ایسے پیرایہ سے کرنا جس سے یہ علم ہو کہ درحقیقت

کر مسجد میں جا کر عاجزی کے ساتھ اپنے پروردگار سے دُعا مانگیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔

ھدایت :۔ استقلال سے کام لینا چاہئیے۔ جو شخص دربار خداوندی میں پانچ وقت حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کو مقرب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے (وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا) انسان بہت جلد باز ہے۔ دُعا مانگتے ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں اور قبول نہیں ہوئی کیا بات ہے۔ اس شیطانی وسوسہ میں ہرگز نہ پڑیں اور اپنا کام ہرگز نہ چھوڑیں۔

تسخیر محبوب کا شرطیہ نقلی عمل

ہاتھ لیپا روں مکھ ملوں کا چی مچھلی کھاؤں
آٹھ پہر چونسٹھ گھڑی جگت منھ کر جاؤں

اتوار کی شب کو پانچ قسم کی مٹھائی اور نصف گز سرخ کپڑا اور ایک پھریری عطر اور قدرے تیل اور پان چھالیہ۔ الائچی۔ لونگ تھوڑی تھوڑی رکھ کر لوبان کی دھونی سلگا کر یک صد و یک بار ایک ایک پرچہ پر اوپر لکھا جائے اور پھر پرچہ کی پشت پر طالب

پر مجھ سے خلوص رکھتا ہے۔ اس کے بعد سلام کا درجہ ہے جب ملاقات ہو۔ چند روز نہ گذریں گے کہ باہمی اُلفت ہو جائے گا۔ تحفہ تحائف بھیجنا بھی ازدیاد الفت میں کمال رکھتا ہے۔

ترقی تنخواہ کا سریع الاثر عمل

بروز جمعہ بعد عصر آیت الکرسی شریف (۳۱۳) بار پڑھ کر دُعا مانگے۔ انشاء اللہ بہت جلد ترقی ہوگی اگر بہت جلدی چاہتا ہے تو دوسرے جمعہ کو پھر اسی طرح پڑھے اور تیسرے جمعہ پھر پڑھے۔ کامیاب ہوگا۔

فائدہ :۔ چند اشخاص بحمد اللہ اس عمل کی برکت سے کامیاب ہو گئے۔ ایک بزرگ کا عطیہ ہے۔ اگر کامیابی نہ ہو تو پھر شرف قمر میں شروع کریں۔ اب تو سینکڑوں حضرات اسکی بدولت با روزگار بن گئے۔

اجابت دعا کا بے نظیر عمل

ہر نماز کے بعد جب فارغ ہو جائیں۔ یعنی سُنّتیں نوافل پڑھ

Scanned with CamScanner

و مطلوب کا نام معہ والدین لکھا جائے (بارہ بجے تنہائی میں بیٹھ کر رات کو لکھنا چاہیئے) اور ایک سو ایک بار بلا طالب و مطلوب کے ناموں کے اس کو پڑھ لیا جائے مطلب یہ ہے کہ اس شعر کو اچھی طرح سے باطمینان پڑھ لیں۔ یہ عمل پورا ہو گیا۔ (بارہ بجے شب کو لکھیں اور پھر پڑھیں۔)

اب مٹھائی معہ دیگر سامان کپڑے میں باندھے معہ عطر چھالیہ۔ لونگ وغیرہ تالاب میں ڈالے اور چلا آئے۔ کوئی قید نہیں ہے۔ کہ اسی وقت ڈال آوے۔ موقع نہ ہو تو صبح ڈال آئے۔ اب یہ عمل ایک سال تک کام دے گا۔

ترکیب:۔ طالب و مطلوب کا جو نام لکھا جائے گا۔ اس میں خواہ جس پہ فریفتہ ہو اُس کا نام وغیرہ لکھا جائے (طالب مع والدہ مطلوب مع والدہ)

اشارہ:۔ یا جس کا جی چاہے نام لکھ دیں۔ فلاں بنت فلاں محض تکمیل عمل کے واسطے یہ کیا جاتا ہے۔ شبہ میں نہ پڑیں۔

طریقہ:۔ عطر پہ یا الائچی پہ یا پان پہ یا مٹھائی پر سات مرتبہ اس شعر کو معہ فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں پڑھ کر کے کھلا دے یا لگا دے مسخر ہو جائے گا۔

سبحان اللہ کیا برقی طلسم ہے

ہر مہم کا بآسانی حل ہو جانا

یہ ایسا تیر بہدف طلسم ہے کہ فوری کام ہوتا ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے کسی قسم کا کام ہو مثلاً ملازمت نہیں ملتی۔ تجارت نہیں چلتی افسر رخصت نہیں دیتا یا تبادلہ اُس جگہ سے نہیں کرتا۔ یا دشمن ہلاک کرنا چاہتا ہے یا کسی مقدمے میں سزا ہونے والی ہے الغرض دقت پہ طرح طرح کی صورتیں جو پیدا ہوں اور جائز ہوں۔ سب میں کام دے گا (انشاء اللہ) زبانی یاد کر لیں اور موقع پر اس کو پڑھیں اور فائدہ اٹھائیں۔

ہر کہ را مہمی پیش آید۔ باید کہ در گورستان رفتہ۔ دو رکعت نماز گزارد در ہر رکعت بعد از فاتحہ ۲۴ بار آیت الکرسی شریف ۱۰ بار سورہ اخلاص بخواند و بعد از سلام با کسے سخن نگوید۔ و ہزار بار بخواند اَصْبَحْتُ فِیْ جِوَارِكَ یَاكَرِیْمُ یَارَحِیْمُ

بخانہ نرسیدہ باشد کہ باذن اللہ حاجتش بکفایت رسد۔
لاکھوں لوگ فیضیاب ہو چکے ہیں۔

ایک غضب کا عمل

یہ عمل زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے اکثر حضرات اس کو پورا کر چکے ہیں جو ایک عظیم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس عمل میں اس قدر بدرجہ مجبوری سے کام لیا جا رہا ہے کہ جو خریدار اس کتاب کے ہوں گے وہی انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور حضرت قطب الاقطاب نے بھی دعا فرمائی ہے کہ اے پروردگار اس کتاب سے استفادہ کرنے والوں کو فائز المرام کر اور فراخی رزق بے شمار عطا فرما۔ آمین۔

اگر آپ حافظ ہیں تو ماشاءاللہ نورٌ علیٰ نور۔ اول سورہ الرحمٰن شریف زبانی یاد کریں۔ روزانہ آفتاب جب نکلے تقریباً پانچ منٹ کے اندر ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور کرنیں آفتاب کی پھیلی ہوئی ہوں جس طرح ریڈیم دھات اپنا کام آفتاب پر بجلی کی طاقت کے شمول سے کام کرتی ہے جس سے ریڈیو بنایا گیا ہے اسی طرح سورہ

الرحمٰن اپنا عمل تسخیر کا بجا لاتی ہے اور ابر کی صورت میں جب آفتاب نہیں نکلتا۔ تو ریڈیو کی آواز پست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چلہ کے درمیان اگر مطلع غبار آلود ہو گیا تو عمل کمزور ہو گیا۔ موسم گرما اس کے لیے مناسب رہتا ہے۔ قید کچھ نہیں ہے۔ جب جی چاہے شروع کر دو۔

اب سورج کے سامنے منہ کر کے سورۂ رحمٰن پڑھنا شروع کریں جب فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ پر انگلی سے اشارہ کر دیا کریں۔ یہاں تک کہ سورت ختم ہو جائے۔

یہ عمل روزانہ پانچ منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہفتہ کے بعد آمد مخلوق شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ التفات نہ کریں۔ اور آنے والوں کو کمال اخلاق سے بٹھلایا کریں اور خوش مزاجی سے پیش آئیں۔ ختم چلہ صبح کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھتے رہیں۔ یہ عمل چالیس یوم کا ہے۔

ایک چلہ میں عام مخلوق کی آمد۔ دوسرے چلہ میں خاص خاص لوگوں کی آمد۔ تیسرے چلہ میں رئیسوں۔ جاگیرداروں اور نوجوانوں تعلقہ داروں کی ملاقات۔ چوتھے چلہ میں رات دن مخلوق کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ان حضرات سے جو کچھ آپ فرمائیں گے تعمیل ارشاد بجا لائیں گے۔ اگر تجارتی کاروبار ہے۔ سب خریداری کریں گے۔

Scanned with CamScanner

ہر شخص آپ کی دوکان پر خود بخود کھینچ کر آئے گا۔ عجیب وغریب متصف بصفات یہ عمل ہے۔ خاص طور پر مشورہ میں عمل کے کر دیے کا دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی حاکم کے سامنے جانا منظور ہے یا کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہو۔ ایک بار سورۃ الرحمٰن پڑھ کر جائیے اگر اس قدر موقع نہ ملے تو تین بار فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ط پڑھ لیں اور پھر سلام کریں۔ افسر کمال اخلاق سے پیش آئے گا۔

ملازمت کا بہترین عمل

حٰمٓ۔ تَنْزِیْلُ الْکِتٰبِ مِنَ اللّٰہِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ۙ
غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیْدِ الْعِقَابِ
ذِی الطَّوْلِ لَآ اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ط اِلَیْہِ الْمَصِیْرُ ۝
بِسْمِ اللّٰہِ بَابُنَا تَبَارَکَ حِیْطَانُنَا یٰسٓ
سَقْفُنَا کٓھٰیٰعٓصٓ - کِفَایَتُنَا۔ حٰمٓ عٓسٓقٓ
حِمَایَتُنَا فَسَیَکْفِیْکَھُمُ اللّٰہُ وَھُوَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ ط

اس آیت شریف کو روزانہ بعد نماز عشا، یا بعد نماز تہجد ایک ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیئے۔ کچھ روز کے بعد جن لوگوں کو ضرورت ہوگی وہ ملازم رکھنے کے خواہش مند ہوں گے اور ہر شخص تعریف کرے گا کہ یہ بڑا نیک اور غریب ہے۔

یہ عمل اُن لوگوں کے واسطے زیادہ پر اثر ہے۔ جو پنشنر ہو گئے اور پھر ملازمت کا حوصلہ دل میں ہے یا مختار کارندہ وغیرہ بننا چاہتے ہیں برسر خدمات ہوں گے۔

فائدہ:- اس عمل کی بدولت بحمداللہ بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ ادھر پڑھا اُدھر ملازم ہو گئے۔ لیکن بعد ملازمت چالیس یوم پورے کرلے ایسا نہ کرے کہ درمیان میں چھوڑ دے اور بعد ختم روزانہ ایک بار اس کو ضرور پڑھ لیا کرے تاکہ مالک خوش رہے۔ پھر صفت یہ ہے مالک جس کا ملازم ہے بلا مشورہ آپ کے کوئی کام نہ کرے گا اور جو رائے آپ دیں گے اس پر عمل درآمد کرے گا۔ انشاءاللہ تعالےٰ۔

دربار خداوندی میں حاضر ہونے والا جلد مقرب بارگاہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک بھی اسکی خوب سنتے ہیں۔ مقصد دلی جلد برآتا ہے۔

Scanned with CamScanner

رحمتِ خداوندی

سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُوْلٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللّٰهِ نَاظِرَةٌ اِلَيْنَا بِحَوْلِ اللّٰهِ لَا يُقْدَرُ عَلَيْنَا۔

ہر نماز کے بعد سات سات مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں چھپاتا ہے۔ اگر کوئی امر خلاف سرزد ہو جائے اس پر مخلوق کے ذریعہ سے ظاہر کرا دیتا ہے اور اس کو نقصان اور پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ بڑا اچھا عمل ہے۔

بدمزاج عورت کی درستی ہو جانا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اِنَّ وَلِيَّ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ط

اگر زوجین میں نفاق رہتا ہے اور کسی طرح نہیں بنتی اس وقت چاہیے کہ یہ آیات کو روزانہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھے صبح و شام سجدہ میں جا کر دعا مانگے کہ اے پروردگار میری بیوی کو

میرا مطیع اور فرمانبردار بنا۔ ہفتہ عشرہ نہ گذرے گا کہ کمال محبت ہو جائے گی۔

زہر خورانی کا دفیعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ط

اگر شبہ ہو کہ اس کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے یا پانی میں زہر ملا دیا ہے تین بار اس آیت شریف کو دم کر کے کھائیں کچھ اثر نہ ہوگا۔ یا یہ طریقہ عمل کر لیں کہ جب کھانا سامنے آئے تین بار پڑھ کر دم کر دیا پھر کھانا شروع کیا۔

اس طرح یہ بھی ہے کہ لایلف پوری سورۃ پڑھ کر دم کرنے سے بھی اس ضرر سے محفوظ رہے گا۔

خوش اسلوبی سے ہر کام پورا ہونا

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

Scanned with CamScanner

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

تمام مہمات کے لیے کافی ہے ہر کام احسن طریقہ سے انجام کو پہنچتا ہے۔ مخلوق معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ جو دُعا مانگے گا خداوند کریم آسان طریقہ سے اس کا ذریعہ پیدا کر دے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح کام ہوگیا۔ بہترین عمل ہے۔

روزانہ ایک تسبیح صبح و شام پڑھ لیا کریں اس کے علاوہ جو فائدہ پہنچے گا۔ اُس کا علم خود آپ کو ہو جائے گا۔ اگر چار بجے صبح آسمان کے نیچے برہنہ سر کھڑے ہو کر ایک تسبیح پڑھا کریں۔ بڑا زبردست توکل حاصل ہوگا۔ اور مستغنی عن الغیر ہو جائے گا۔ تیر بہدف عمل ہے۔

فتوحاتِ غیبی

پروردگار عالم طرح طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تحفہ تحائف ملتے ہیں۔ فراخی رزق ہوتی ہے۔ دل ہر وقت خوش رہتا ہے۔ آپ جس وقت اس کو پڑھنا شروع کریں گے۔ دل باغ باغ رہے

گا۔ اور اس عمل کی برکت سے وہ فوائد آپ کو پہنچیں گے۔

روزانہ بعد نماز فجر یا باہر ہوا خوری کے واسطے نکل جائے اور پڑھنا شروع کر دے۔ چلتے چلتے ختم ہو جاتا ہے یا بیٹھ کر بھی پڑھ لیں۔ ناغہ نہیں ہونا چاہیئے

روزانہ گیارہ بار درود شریف اور گیارہ سو گیارہ بار يَا مُغْنِيُ پھر گیارہ بار سورۂ مزمل شریف پھر گیارہ بار درود شریف پھر دعا مانگے نتائج چند روز کے بعد مرتب ہونے لگیں گے۔

مزید اضافہ:۔ اکثر احباب کو چار چار چھ چھ ماہ کے اندر فتوحات حاصل ہونا شروع ہوئیں تیز تجارتی کاروبار میں بھی خاص عظیم نفع پہنچانیوالی یہ سورت شریف یہی ہے۔

جنّت میں باغ لگانا

روزانہ ایک تسبیح سُبحان اللہ وبحمدہٖ۔ ایک تسبیح سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے دو صد درخت روزانہ جنت میں فرشتے لگائیں گے اور مغفرت کا سامان ہوگا۔ بُرائی اور خراب عادت سے بچیں گے۔ حدیث شریف میں ان ہر دو تسبیح کی بڑی تعریف آئی ہے

Scanned with CamScanner

پھر ایک تسبیح روزانہ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ پڑھے
شیطانی حرکات سے محفوظ رہے گا۔

سفر بخیر و خوبی گزرے

ریل کا سفر ہو یا پیدل سفر ہو یا کشتی پر سفر کرنا ہو یا گھوڑے پر، الغرض کسی طریقے سے انسان سفر کرے۔ جب ارادہ بیٹھنے کا کرے ایک بار اس آیت شریف کو پڑھ کر بیٹھ جائے۔ سفر بخیر و عافیت گزرے گا۔

بِسْمِ اللّٰہِ مَجْرِہَا وَمُرْسٰہَا اِنَّ رَبِّیْ لَغَفُوْرٌ الرَّحِیْمٌ۔

اگر سردی سے بخار آتا ہو تو بیری کی لکڑی پر لکھ کر گلے میں ڈالے۔ انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا۔

یا لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں مریض تندرست ہو جائے گا۔ بعد میں اتار دیں۔

سفر میں مطلق تھکان نہ ہونا

اگر آپ پیدل سفر کرتے ہیں تو سبحان اللہ (۳۳) بار الحمدللہ (۳۳) بار۔ اللہ اکبر (۳۴) بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے سر سے لیکر پیروں تک دونوں ہاتھوں کو پھیر دیں۔ قوت اس قدر ہو گی کہ آپ کو مطلق چلنے کا احساس نہ ہو گا۔ یعنی تکان نہ ہو گا۔

فائدہ:-

حدیث میں آیا ہے کہ اس کو جس نے ایک بار پڑھ لیا۔ ایک درخت جنت میں نصب کر دیا اور جس نے پوری تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لی (ایک صد) گویا اس نے اسماء حسنیٰ کے کل ناموں کا ورد کر لیا۔ آپ چند دن کر کے دیکھئے۔ آپ کی قدر و منزلت بلند ہو گی۔ بارہا آزمائش کردہ ہے۔

یہ اثرات بحکم ربی سب ہوتے ہیں کلام اللہ کی آزمائش۔

استغفر اللہ۔

اس کی بہت برکت ہے اس کے پڑھنے سے آپ کی کوئی بری عادت ہو گی تو وہ چھوٹ جائے گی۔

Scanned with CamScanner

سخت سے سخت مشکل آسان

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ؕ

اس کی زکوٰۃ سوا لاکھ ہے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے آسانی سے جسقدر آپ پڑھ سکیں مقرر کر لیں۔ مثلاً پانچ ہزار روزانہ مقرر کر لیا تو (۲۵) دن میں زکوٰۃ پوری ہو جائے گی اور عمل قبضہ میں آجائے گا۔ آپ کو کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی زبردست خطرہ پیدا ہو گیا چند آدمی مسجد میں مل کر یا گھر میں بیٹھ جائیں اور ایک شب میں سب لوگ مل کر پڑھ ڈالیں اور پھر مل کر دعا مانگیں انشاء اللہ دعا قبول ہو گی۔ اور اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اور اس کی بدولت اللہ پاک نے پھانسی کی سزائیں تبدیل ہو کر رہائی ہو جاتی ہے۔

بزرگانِ دین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ بڑی غضب کی چیز ہے۔ اور لاثانی ہے۔ یہ اسم اعظم مخفی ہے۔ جس مصیبت اور

مقصد کے لیے پڑھے گا۔ انشاء اللہ عظیم فائدہ اٹھائے گا۔ جس قدر اس عمل کی تعریف کی جائے کم ہے۔ اکثر و بیشتر یہ عمل ایسا تیر بہدف ہے کہ اگر پھانسی کا حکم ہوا ہو سزا میں تبدیل ہو جائے گی۔ سزا میں تخفیف ضرور ہو جائے گی۔

نشہ کی عادت ختم

کلمہ شریف کا ذکر ایک ہزار بار روزانہ کریں۔ اور

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ؕ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَتَكَلَّمُوْنَ ؕ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ؕ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَیْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْنَ ؕ بِرَحْمَتِكَ یَآ اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ ؕ

روزانہ ایک بار صبح اور ایک بار شام کو پڑھ لیا کریں تمام برائیوں سے انشاء اللہ محفوظ رہیں گے۔ اور جب کوئی شخص برائی سے یاد کرنا چاہے گا۔ زبان بند ہو جائے گی۔ بڑا سریع الاثر عمل ہے

Scanned with CamScanner

اعداد نکالنے کا طریقہ

ابجد ہوز حطی کلمن سعفص

۱-۲-۳-۴ ، ۵-۶-۷ ، ۸-۹-۱۰ ، ۲۰-۳۰-۴۰-۵۰ ، ۶۰-۷۰-۸۰-۹۰

قرشت ثخذ ضظغ

۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰ ، ۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰ ، ۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰

بہت سے احباب کو اعداد نکالنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے ۔ ان اعداد سے تاریخی نام رکھا جاتا ہے اور جس عمل کی ضرورت ہو موافق اعداد اسم کے پڑھا جائے ۔ نہایت درجہ مؤثر ہوتا ہے ۔ ہر اعداد کے بالمقابل ہندسہ لگا دیئے گئے ہیں ۔ سب الفاظ کے ہندسہ لگا کر اور ملا کر جوڑ لیں ۔ پھر اسی تعداد میں روزانہ پڑھنا چاہیئے مثال کے لیے ذیل کا عمل دیکھا جائے ۔

مثلاً ہم کو ترقی علم اور فراخی ذہن کے واسطے (رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا) پڑھنا ہے ۔ یہ دس اعداد ہیں ۔ اور اس کا مجموعہ (۴۱۶) ہوتا ہے ۔ لہٰذا روزانہ ۴۱۶ مرتبہ کسی ایک وقت مقررہ پر پڑھیں گے

عظیم فائدہ اٹھائیں گے ۔ اور اگر اپنے نام کے اعداد نکال کر دونوں کا مجموعہ کی تعداد سے روزانہ پڑھا جائے گا ۔ تو اس طرح کام ہو گا ۔ جیسے مشین گن کام کرتی ہے ۔

ہر مرض اور ہر درد کی دوا

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ؕ

مقام مرض پر یا مقام درد پر ہاتھ رکھکر ان آیات کو تین بار پڑھکر دم کر دے ۔ دن میں دو دو بار دم کر دیا جائے ۔ اللہ تعالےٰ مرض کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے گا ۔ صرف ایک آیت اوّل کی پڑھیں گے ۔ غضب کی تسخیر ہوگی ۔

درندہ جانور کے حملہ سے محفوظ

اگر شیر یا کتا یا تیندوا یا اور کوئی جانور حملہ کرے فوراً اسکو پڑھے

Scanned with CamScanner

(وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ) باز آ جائے گا ہرگز نہ کاٹے گا۔

اولاد سے مایوسی

اگر آپ کو اولاد کی جانب سے مایوسی ہے تو موافق اعداد کے ایک چلہ تک روزانہ اس آیت شریف کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ (رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۝) اس کے اعداد نکالئے جیسا کہ اوپر درج ہے حساب لگا کر نکالیں اور روزانہ معمول بنا لیں۔

کیسا ہی سخت مرض ہو شفا ہو گی

ان آیات کو پڑھ کر روزانہ پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے اور تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے یا طشتری پر لکھ کر پلا دے شفا ہو گی۔ بارہا آزمائش کردہ عمل ہے۔ طبیب صاحبان کو چاہیے روزانہ

بوقت صبح ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاء اللہ جس مریض پر پڑھ کر دم کریں گے شفا ہو گی۔

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۝ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ۝ قُلْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ ۝

جنات کا اتار دینا

سورۂ جن پوری ایک بار پڑھ کر جس پر آسیب کا خلل ہو دم کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ اتر جائے گا۔ پھر سورۂ یٰسین شریف ایک ایک بار پڑھ کر چاروں طرف کونوں کے پھونک دیں۔ ہمیشہ کے واسطے مکان محفوظ ہو جائے گا۔ سورۂ جن پوری لکھ کر بازو

Scanned with CamScanner

پر بطور تعویذ موم جامہ کر کے باندھیں خود مامون و محفوظ رہے گا۔ اور شفا ہو جائے گی۔

بصارت میں کمی نہ ہونا

اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری آنکھوں کی روشنی کم نہ ہو۔ بعد فارغ ہونے وضو کے۔ آسمان کی جانب نظر کر کے سورۃ القدر (اِنَّآ اَنْزَلْنَا) پوری پڑھ لیا کریں۔

بینائی خراب نہ ہوگی اور آنکھیں روشن رہیں گی۔ اور کوئی نقصان بحمد اللہ آنکھ میں پیدا نہ ہوگا۔

کسی کی جانب سے برائی نہ دیکھنا

ہر نماز کے بعد جبکہ فرض ختم ہوں اور دعا مانگنے سے پہلے اپنے سجدہ کے سامنے دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں کو زمین پر رگڑیئے اور پھر ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک کر تالی بجا دے۔

شدید ظالم کو شہر سے باہر نکال دینا

مخلوق ظلم سے تنگ آ گئی ہو تو اس آیت شریف کو ایک چلّہ تک روزانہ پڑھے۔ اس درمیان میں ظالم شہر سے نکل جائے گا۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝

روزانہ سات گھونگچیاں لیں اور اس پر ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ اسی طرح روزانہ سات دن تک برابر پڑھ کر دم کر دیا کریں۔ روزانہ ان کو کنویں میں ڈالتے جائیں۔ واضح رہے کہ جب یہ عمل شروع کریں بقید ترک حیوانات کریں۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر ناجائز جگہ پر بلاوجہ آپ نے عمل کیا۔ سخت نقصان پہنچے گا۔ خوب یاد رکھیے۔

بخار کا حکمیہ علاج

اگر کسی کو بخار آتا ہے تو نئی روئی لے کر دو پھایہ بنائیں۔ ایک دائیں کان کے واسطے اور ایک بائیں کان کے واسطے دائیں کان

ہیں جو چھپایا لگانا ہو اس پر گیارہ مرتبہ درود شریف اور سات بار الحمد شریف پوری پڑھ کر دم کر کے دائیں کان میں لگا دیں۔ دوسرے دن اسی ٹائم پر دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں میں لگا دیں اور ساتھ گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا۔ اسی طرح اگر چالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے پر چھینٹا مارے۔ انشاءاللہ تعالےٰ بخار دفع ہو جائے گا۔ اگر دونوں باتیں ایک ساتھ عمل میں لائے۔ سبحان اللہ کیا کہنا۔ تیر بہدف ہے۔ اگر اس پر بھی بخار نہ جائے۔ تو اسی قاعدے کے ساتھ سورہ الم نشرح پڑھنا چاہیئے۔

فقیر سے غنی اور بے گمان رزق

آیت الکرسی شریف (خالدون) تک ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے یہاں تک کثرت کرے کہ اس کا علم ہونے لگے۔ کہ یہ فائدہ پہنچ رہا ہے جو چاہے پھر ایک تسبیح روزانہ مقرر کرے۔ عجیب چیز ہے۔

مجرب عمل ہے۔ آزمائش کر لیجئے۔

اُمرا، حکام اور عوام کی نظر میں محبوب

پارہ اذا سمعوا پندرہواں رکوع وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ سے مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ تک بعد جمعہ کانچ کے برتن پر مسجد میں بیٹھ کر گلاب کے عرق میں زعفران حل کر کے لکھیں قلم پاک ہو۔ پھر اس کو شہد خالص سے دھو کر سرمہ اصفہانی بقدر ضرورت میں ملا کر پیس کر شیشی میں محفوظ رکھیں اور آنکھوں میں لگایا کریں۔ زہرہ یا مشتری یا شرف قمر میں لکھنا چاہیئے۔

ایک عجیب راز

حروف تہجی میں سات حرف مخصوص

ثؔ جمعرات کے لیے مخصوص ہے اگر کوئی اسم جس کا اوّل حرف ثؔ ہو۔ ثابت کے مہینے میں شروع کیا جائے اور ج کے لیے جمعہ ہے خ کے واسطے اتوار ہے (ذ) کے واسطے منگل ہے (ظ) کے

واسطے بدھ ہے ۔ اسم ظاہر کے لیے مخصوص ہے ۔ (ش) کے واسطے پیر کا دن مخصوص ہے اسم شاکر پڑھیں (ف) کے واسطے ہفتہ مقرر ہے اسم فاتح کے لیے مخصوص ہے ۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ اسماء حسنہ میں اس کا خیال رکھیں ۔

بغض عداوت نا اتفاقی

پارہ ولواننا ۸ ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ سے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ جن لوگوں میں آپس میں بغض عداوت اور جانی دشمنی یا بول چال بند ہو یا قرابت داری کے جھگڑے کی وجہ سے مخالفت ہو ان کو برفی پر جو مسلمان کے ہاتھ سے بنائی گئی ہو لکھ کر دونوں کو کھلا دیں یا انجیر پر لکھیں ۔ ہر دو کو کھلائیں ۔ آپس میں الفت ہو جائے گی ۔

نظر بد سے حفاظت

اگر بچہ کو نظر لگ جائے سورۂ مزمل شریف پوری پڑھ کر تین بار دم کریں ۔ انشاء اللہ نظر زائل ہو گی ۔

نہایت مؤثر اور مجرب عمل

برائے مطلوب و دافع اعداء و تلاش روزگار

سورۂ اخلاص کا ایک بار پڑھنا تہائی قرآن شریف کے برابر ہے اول و آخر سو سو بار درود شریف اور ایک ہزار بار سورۂ اخلاص پڑھنا چاہیئے ۔ عروج قمر میں تلاش معاش کے واسطے پڑھیں اور نزول ماہ میں دافع اعداء کے واسطے ایک ہفتہ مؤثر اور مجرب ہے ۔

نیز اگر اس سورت کو نقش کی صورت میں بعد نماز صبح قبل طلوع آفتاب سنیچر کے دن عروج ماہ ثابت کے مہینے میں لکھے اور خشک قلم سے نام دونوں فریق کا معہ ان کی والدہ کے ناموں کے لکھے اور اس کے بعد یہ لکھے (الٰہی بہ برکت اس کلام پاک کے ان میں موافقت کر) پھر اسکو دھو کر مطلوب کو شیرینی میں کھلا دے حلال جگہ کے سوا دوسری جگہ ہرگز ہرگز نہ کرے ۔ ورنہ نقصان اٹھائے گا ۔

چیچک سے بچّہ کی حفاظت

چیت کے مہینہ میں اکثر بچوں کے چیچک نکلتی ہے۔ عمل یہ ہے کہ ایک نیلا تاگہ لیا جائے اور سورۂ رحمٰن پڑھنا شروع کریں۔ جب فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ آئے تو دھاگے میں گرہ لگادیں۔ اسی طرح جتنی بار فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ آئے برابر گرہ لگاتے جائیں۔ بعد ختم گلے میں ڈالیں۔ چیچک سے بچّہ محفوظ رہے گا۔

دفینہ کا خواب میں معلوم کرنا

یَا ھَادِیُ الْخَبِیْرُ الْمُبِیْنُ ط نصف شب کے بعد اس کی کثرت کرے اور ہر سو بار کے بعد یہ کہے اِھْدِنِیْ یَا ھَادِیُ۔ اَخْبِرْنِیْ یَا خَبِیْرُ۔ وَبَیِّنْ لِیْ یَا مُبِیْنُ۔ پھر جس چیز کا حال دریافت کرتا ہو اس کا نام لے۔ جب نیند غالب ہو سو جائے۔ خواب میں انشاءاللہ تعالیٰ معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح باوضو بستر پاک پر لیٹ کر بعد نماز عشاء یَا بَاسِطُ بکثرت پڑھے۔

خواب میں علم ہو جائے گا۔

فائدہ:- اگر اور کوئی بات معلوم کرنا ہو تو اس کو زبان سے ادا کرے۔

برائی سے حفاظت

قُلْ یٰاَیُّھَا الْکٰفِرُوْنَ (سورۂ کافرون) روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھ لینا ہر شر اور برائی سے محفوظ رکھتا ہے ایک بار پڑھنا چوتھائی کلام پاک کے برابر ہے۔

فراخیٔ رزق

سورہ اخلاص یعنی قُلْ ھُوَاللّٰہ شریف پوری مثل سابق ثواب رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسکو بعد نماز فجر اکیس ۲۱ بار بعد ظہر بائیس ۲۲ بار پڑھے اور بعد عصر (۲۳) بار بعد مغرب (۲۴) بار بعد عشاء (۲۵) بار پڑھے ہر نماز میں جو تعداد مقرر ہے اتنا ہی اوّل و آخر درود شریف پڑھنا چاہیئے۔ مؤثر اور مجرب ہے۔

Scanned with CamScanner

خوف اعدا سے حفاظت

سورۂ لایلٰف پوری اوّل و آخر درود شریف سہ سہ بار۔ ایک سو ایک بار سورۃ روزانہ پڑھنا چاہیئے۔ دشمن بال بیکا نہ کر سکے گا۔ اگر خدا نخواستہ اتنا موقع نہ ملے تو (یَا حَفِیْظُ) پڑھتا رہے۔ دشمن سے مقابلہ اگر ہو جائے اسی کو پڑھتا رہے اور اگر مذکورہ بالا سورۃ کو معمول بنا لے تو کیا کہنا سُبحان اللہ ہزاروں دعائے سیفی سے بہتر ہے۔

سجدہ کے فوائد

کلام پاک میں چودہ سجدہ ہیں۔ ہر سجدہ کی آیت کو پڑھنا چاہیئے اس طرح چودہ سجدہ پورے کر کے پندرہواں سجدہ اپنے دلی مقاصد کا کرے اور سجدے میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ مطلب حل ہو گا سریع الاثر ہے۔ بشرط اس میں یہ ہے کہ اوّل دودھ چاول شکر گھی کا شکرانہ بنا کر بچوں کو کھلا دے۔ پھر اسکو عمل میں لائے

٭

بچّوں کا زندہ نہ رہنا

اگر کسی عورت کے بچہ زندہ نہ رہتا ہو تو یہ کرے۔ دوشنبہ کے دن ٹھیک دوپہر کے اجوائن اور سیاہ مرچ پر چالیس بار سورۂ والشمس پڑھے۔ اوّل و آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھنا چاہیئے۔ پھر دم کرے۔ جبتک بچہ دودھ نہ چھوڑے روزانہ چند دانہ سیاہ مرچ اور اجوائن کے کھاتا رہے۔ بحمداللہ تجربہ شدہ ہے موافق قاعدے کے عمل کرنا چاہیئے۔ ہمیشہ بزرگانِ دین کا اسی کا معمول ہے۔

پتّھر پھینکنا یا دیوانہ کُتّے کا کاٹنا

اگر مکان میں پتھر آتے ہوں یا شیطان پریشان کرتا ہو۔ چار میخوں پر اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَّأَكِيدُ كَيْدًا الخ یعنی رُوَیْدًا تک پچیس پچیس مرتبہ پڑھ کر چاروں کونوں میں مکان کے دبا دے۔ حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر چالیس ٹکڑے روٹی پر لکھکر ایک روٹی کا ٹکڑا روزانہ کھلائے۔ انشاءاللہ جنون جائے

اور ہرک سے محفوظ رہے۔

دردِ زِہ کی تکلیف

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ سے دوسری آیتیں حُقَّتْ تک لکھے آگے اس کے اھیًا اِشْرَاھِیًا لکھ دے۔ پھر اُس تعویذ کو باندھ دیں اور بچہ ہوتے ہی فوراً کھول دیں۔ بآسانی ولادت ہوگی۔

دافع آسیب جن پری و نظر بد وغیرہ

جس مرد یا عورت کو یہ شکایت ہو۔ سورۂ جن سات بار پڑھ کر دم کریں غائب ہو جائے گا۔ سورہ جن پوری پڑھنا چاہیئے) اور اگر ایک بار روزانہ پڑھے زندگی میں اپنا مقام جنت میں دیکھے گا نہایت مؤثر ہے۔

انصرام منگنی و انتظام شادی

اگر لڑکی کے واسطے اچھا بر نہ ملتا ہو یا کہیں سے پیغام نہ آتا ہو تو

عروج ماہ میں اکتالیس مرتبہ سورۂ یٰسین شریف پڑھ کر دُعا مانگ لے انشاءاللہ پیام، اچھے سے اچھا آئے گا۔

اور اگر کوئی حاجت پیدا ہوگئی ہے تو بعد نماز صبح قبل طلوع آفتاب تک روزانہ چالیس دن تک سورۂ یٰسین شریف کو پڑھنا شروع کرے جب مبین پر پہنچے سات مرتبہ مُبین کو پڑھے پھر اوّل سے شروع کرے تیسری مبین پر پہنچے۔ تو سات بار کہے۔ اسی طرح آخر تک عمل کرے پھر آخر میں اوّل سے آخر تک ایک بار پڑھے اور دُعا مانگے۔

لا علاج مرض کا علاج

سُورہ فاتحہ۔ کسی قسم کا لا علاج مرض ہو روزانہ سات مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے شفاء عاجلہ ہوگی۔ اسی طرح جو شخص سورۂ فاتحہ پڑھ کر کسی پر دم کرے گا۔ ازالہ مرض ہوگا۔ ہر مرض کی دوا اور ہر مرض کی شفا سُورہ فاتحہ شریف ہے۔

Scanned with CamScanner

غم، تکلیف، صدمہ، اُمید، حاجت

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ سے آخر صورت تک (سُورۃ مومنون دیکھئے) خلوصِ نیت اور یقین و صدق دل کے ساتھ اگر آسیب زدہ پر پھونک دیں آسیب دفع ہو۔ نیز ایک بار روزانہ بعد نماز پڑھنا رنج و غم مصیبت اور پریشانی و حاجات دُنیوی کے لیے تیر بہدف ہے۔ مجرب ہے۔

لاکھوں نیکیاں پیدا کرنیوالا عمل

ایک بار روزانہ سورۃ کہف پڑھ لی جائے۔ زمین سے آسمان تک تک نُور سے منوّر رہے گا۔ رحمت کے فرشتے مغفرت کی دُعا کرتے رہیں گے۔ اس کے خواص و فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر شب کو روزانہ پڑھ کر سوئے گا۔ دفینہ اپنے مکان کا انشاء اللہ دیکھ لے گا۔ (ذریعہ خواب)

ہدایت:۔ مرد تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔

عورتوں کو چاہیئے کہ زبانی یاد کر لیں۔ آخرت کا تحفہ مفت میں خرید لیں اور اگر سورۃ یٰسین شریف پڑھ کر روزانہ دُعا مانگ لیا کریں۔ تو ان کے شوہر فرمانبردار رہیں گے۔ رات دن فلاح سے گذرے گا۔

محبوب خلائق، فریفتہ، محبّت

سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ

اعداد اس کے (۸۳۷) ہیں روزانہ اوّل بہ نیت زکوٰۃ اکیس (۲۱) یوم پڑھے پھر ایک ہزار بار پڑھ کر سُرمہ پر دم کر کے رکھ لے۔ روزانہ لگایا کرے منظور نظر رہے گا۔ اور اگر ایک ہزار بار روزانہ یعنی طالب و مطلوب کے نام معہ والدہ وغیرہ کے اسم کے ہر بار پڑھتا جائے اور لوبان برابر سُلگتا رہے۔ اکیس دن میں انشاء اللہ مطلوب حاضر ہو کر حسب دلخواہ حکم بجا لائے گا۔

تنبیہ:۔ ناجائز کام میں کلامِ پاک کے اثرات نہیں ہوا کرتے اگر ایسا خیال ہے تو ہرگز ہرگز نہ کریں۔ جائز کام میں دیکھئے حکمیہ اثر رکھتا ہے۔

Scanned with CamScanner

حضور پرنور کی زیارت سے مشرف ہونا

جمعرات کے دن شبِ جمعہ میں غسل کرے اور پاک کپڑے پہنے۔ عطر لگائے بعد نماز عشاء مسجد میں، یا پاک جگہ مکان میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف اور ایک ہزار بار سورہ کوثر پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ وہ شخص حضور پرنور صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔

فائدہ:۔

حضور نبی کریم صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونا کچھ مشکل نہیں ہے شرط صرف یہ ہے کہ پڑھنے والے کو حضور کی محبت جان سے مال سے اور گھر والوں سے بھی زیادہ ہو۔ جس طرح طالب مطلوب کے عشق میں دیوانہ ہوجاتا ہے اس طرح عشق حضور کا ہو۔ انشاء اللہ اس نعمت سے ضرور مالا مال ہوگا۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ "حضور پرنور کو خواب میں دیکھنے والا۔ اس پر دوزخ حرام ہے۔ اللہ پاک ہر صاحب ایمان کو توفیق عطا فرمائے آمین۔

انکساری، عزت بڑھ جانا نرم دل کردینا

یَا عَزِیْزُ اَلْجَبَّارُ اَلْمُتَکَبِّرُ موافق اسم کے اعداد نکال کر پڑھنے سے عزت بڑھتی ہے اور خود اپنے دل میں عاجزی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اگر متکبر مغرور کے سامنے پڑھیں نرم دل اور پانی پانی ہوجاتا ہے

شیطانی وسوسہ کا دفعیہ

جب وسوسہ دل میں آئے خوب خوش ہو اس لیے کہ خوشی سے شیطان کا دل جلتا ہے اور غم اگر کیا بہت خوش ہوتا ہے۔ اس بات پر خیال رکھیئے۔

سخت سے سخت جادو کا قلع قمع

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ سے عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ ۝ پ۱۱ ع۶

کیسا ہی سحر کسی نے کیا ہو۔ نہایت زبردست نافع عمل ہے۔
ایک گھڑا بارش کے پانی کا ایسی جگہ سے لے لیں۔ جس کنوئیں
سے کوئی پانی نہ بھرتا ہو۔ پھر سات درختوں کے ایسے پتے لیں جس
کا پھل نہ کھایا جاتا ہو اس کے بعد دونوں پانی ملا کر اس میں پتے
ڈال دیں۔ پھر آیات کو کاغذ پر لکھ کر اس پانی سے دھو کر مسحور کو
کنارے دریا کے لے جا کر پانی میں اس کو کھڑا کر کے رات کو غسل
دیں۔ انشاء اللہ سحر باطل ہو جائے گا۔

مُردوں سے بات چیت کرنا

ذریعہ مراقبہ بزرگان دین سے استفادہ حاصل کرنا۔ کشف قبور، زیارت
علماء، صلحاء اور مشائخ کبار سے۔

یَا صَمَدُ یَا صَمَدُ اَللّٰہُ الصَّمَدُ

(بعد نماز تہجد یا بعد نماز عشاء پڑھنا چاہیئے) نماز پڑھ کر مسجد میں
یا اپنے مکان کے کسی گوشے میں پاک صاف جگہ پر مصلیٰ بچھا کر
اوّل دن میں پانچ ہزار بار دوسرے دن چار ہزار بار۔ تیسرے
دن تین ہزار بار۔ پھر ایک تسبیح روزانہ کم کرتا جائے۔ یہاں تک

کہ ایک تسبیح پر آ جائے۔ اس درمیان میں اس قدر رقت طاری
ہو گئی کہ پڑھنا مشکل ہو گا اور زار زار آنسو آنکھوں سے جاری ہوں گے
دل قابو سے باہر ہو گا۔ پورا کرے۔ جس طرح بنے۔ اس عمل
میں کوئی خوف ڈر وغیرہ مطلق نہیں ہے۔ اطمینان رکھیئے۔ اب
عمل پورا ہو گیا۔ روزانہ ایک تسبیح معمول میں رکھیں۔ جب تک اس کا
شوق ہو۔ اگر اوّل مرتبہ حسب منشا پورا نہ ہو۔ کچھ روز کا وقفہ دے
کر پھر دوبارہ کریں۔ اوّل تصفیہ قلب لازمی ہے۔ پھر مراقبہ کا
معمول کچھ عرصہ اس کے بعد اس وظیفہ کو کریں۔ اکثر حضرات کی ناکامی
کا سبب یہی ہوتا ہے اور شکایات یہ آتی ہیں کہ کچھ معلوم نہیں
ہوا۔ رقت قلب کا نہ ہونا کثیف قلب ہونے کی دلیل ہے

ترکیب طریقۂ عمل:

جس قبر کے حالات دیکھنا منظور ہوں اس پر قبلہ
رخ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ پانچ
تسبیح پوری نہ ہونے پائے گی کہ قبر مثل صندوق کے کھلنا شروع
ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے عذاب قبر
معلوم نہ ہو گا۔ اور اگر مشائخ یا مومنِ صالح کی قبر ہے آپ دل میں

Scanned with CamScanner

سلام کریں جواب ملے گا۔ جو بات کرنا چاہیں۔ دل ہی دل میں کریں جواب ملتا جائے گا۔ خیال رہے کہ اگر کوئی بات کا جواب دینا مقصود نہیں ہے۔ خاموش رہیں گے اصرار نہ کریں۔ نیز راز مخفی رکھیں زیادہ عرصہ نہ لگائیں۔ چند منٹ کے بعد اجازت دے دیں

تجربہ :۔

اس قدر سریع الاثر عمل ہے بفضلہ تعالےٰ تیسرے دن سے رقت قلب شروع ہو جاتی ہے۔ بعد تکمیل جبکہ ایک تسبیح پر آجائے ختم کر دیں۔ جب تک عمل میں کشف قبور رکھنا منظور ہو یک صد بار روزانہ پڑھتے رہیں اگر آپ نے ایک تسبیح پڑھ کر مراقبہ کیا تو خانہ کعبہ سامنے آجائے مدینہ طیبہ کی زیارت ہو جائے بیت المقدس کا نقشہ سامنے آجائے۔ یہ سب کچھ ہو گا پورا نقشہ سامنے ہو گا۔ اس میں ڈر خوف بالکل نہیں ہے بعد نماز عشاء یا بعد نماز تہجد مصلیٰ پر بیٹھ کر مراقبہ کر لیں۔

تنبیہ :۔

مکاشفہ عورت کی قبر پر بیٹھ کر نہ کریں اگر آپ نے ایسا کیا اور اسکی حالت اللہ کے نزدیک اچھی نہ ہوئی تو آپ گنہگار ہونگے

اس عمل کو پڑھ کر بچوں کا کھیل نہ بنالیں۔ بڑے غضب کا عمل ہے۔ قبرستان میں جاکر تحقیق قبر پر بیٹھیں کہ یہ قبر مرد کی ہے یا عورت کی۔

لاکھوں حضرات نے فائدے اٹھائے ہیں اگر ایک ہفتہ کے بعد رقت طاری ہونا موقوف ہو جائے تو اوّل اسم ذات روزانہ پانچ ہزار بار ایک چلّہ پڑھ کر تصفیہ قلب کر لیں۔ پھر شروع کریں تاکہ عمل پورا ہو جائے۔

بھوک پیاس غائب

اَللّٰہُ الصَّمَدُ ط ۲۰۰ عدد ہیں۔ روزانہ دو تسبیح پڑھنا چاہیئے جس کام میں ہاتھ ڈالے فتح مند ہو۔ کثرت سے ذکر کرنے والا کھانے کی جانب سے لا پرواہ ہو جاتا ہے بارہا دیکھا گیا ہے اس اسم کو جس نے پڑھا بھوک پیاس غائب اور طاقت علیٰ حالہٖ قائم عمل مجرب ہے۔

Scanned with CamScanner

اعانت اور حفاظت

یَا حَافِظُ یَا نَاصِرُ پڑھنا شروع کریں اور برابر پڑھتے رہیں بلا تعداد۔ دشمن اندھا ہو جائے گا۔ کچھ نہ کر سکے گا۔ دشمن تنگ کرتا ہے جا بجا آدمی مارنے کے لیے تعینات کر دیئے تو یہ عمل کریں انشاء اللہ دشمن دفع ہو جائے گا۔ تباہ ہو جائے گا۔ چند دن یہ عمل کریں۔ دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ تعداد ایک سو ایک (۱۰۱) بار روزانہ پڑھیں۔

مفرور کا واپس آجانا

کوئی شخص بھاگ گیا ہو۔ سورۃ وَالضُّحیٰ سات مرتبہ پڑھے اور دعا مانگے مفرور ایک ہفتہ کے اندر واپس آئے گا اور اگر آیت الکرسی چاروں طرف پڑھ کر یہ خیال ذہن میں کر کے دم کر دے کہ جہاں تک گیا ہو وہاں سے آگے نہ بڑھے۔ محاصرہ کیا جاتا ہے۔ آگے نہ بڑھ سکے گا۔ وہیں سے لوٹ پڑے گا۔

نظرِ بد

ہر قسم کے درد بیماری و سحر و اُم الصبیان سے حفاظت۔ سورۃ معوذتین تین (۳) بار پڑھ کر دم کرنے سے مذکورہ بالا امراض کا دفعیہ ہوتا ہے۔

فوائد آیت الکرسی شریف

آیت الکرسی شریف کے بہت سے خواص ہیں۔ منجملہ اُن کے چند خواص مذکورہ ہیں

۱۔ اگر کوئی افسر دفتر کا معائنہ کرنا چاہتا ہے آپ نے تین بار پڑھ کر تالی بجا کر چاروں طرف اپنے دفتر کا حصار کر دیا اور خیال کر لیا کہ ایک سال تک یا چھ ماہ تک معائنہ نہ کرنے ہرگز ہرگز معائنہ نہ کر سکے گا۔ اگر اتفاق سے افسر آ بھی گیا اور معائنہ بھی کیا تو کسی غلطی کی گرفت نہ کر سکے گا۔ نہ سختی سے پیش آئے گا۔

Scanned with CamScanner

۲- ہر عمل کا حصار اوّل آیت الکرسی شریف سے تین بار پڑھ کر کیا جاتا ہے۔

۳- جمعہ کے دن بعد نماز عصر اگر سترہ بار پڑھیں۔ رقّتِ قلب پیدا ہو اور جو دعا مانگے قبول ہو۔

۴- اگر تین ۳۱۳ سو تیرہ بار پڑھے بے شمار خیر و برکت نازل ہو۔

۵- اگر اسم کے اعداد نکال کر موافق اعداد کے پڑھیں۔ غلبہ اور نصرت و کامیابی حاصل ہو۔

۶- اگر آسیب کا حصار کر دیں نکل کر نہ جا سکے۔ شب کو پڑھ کر تین بار تالی بجا دیں۔ شب بھر محفوظ رہیں۔

فائدہ:-
آیت الکرسی شریف کے پڑھنے سے جب آپ حصار کر دیں گے تو فرشتے برہنہ تلوار سے حفاظت کرتے رہیں گے۔

نیا رزق مسخّر قلب اور غلبہ دشمن

(اگر سورہ طٰہٰ) ایک بار روزانہ پڑھی جائے۔ اللہ پاک نیا رزق

عطا فرمائے۔ حاجات پوری کرے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو۔ لوگوں کے دل مسخر ہوں۔ عورتیں اگر پڑھیں مردوں کے دل موم ہوں۔ یعنی شوہر سختی سے پیش نہ آئے۔ عموماً عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ مرد غلام بن کر رہے۔ یہ ہوگا۔

خیر و برکت

اگر سورۂ اخلاص کی ایک تسبیح روزانہ پڑھے۔ بے شمار خیر و برکت پیدا ہو۔ ہر ایک شر سے محفوظ رہے۔ سوتے وقت معمول بنا لے۔ مشرّف بزیارت بزرگان ہو۔

برائے امداد

اُنصُرنَا فَاِنَّکَ خَیرُ النّٰاصِرِینَ ط

جو شخص اس آیت شریف کو روزانہ پچیس ۲۵ بار ہر نماز کے بعد پڑھے گا۔ اللہ تعالےٰ اسکی مدد فرمائے گا۔ غیب سے انتظام ہوگا۔

Scanned with CamScanner

برائے رحم

وَارْحَمْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ط

جو شخص اس آیت کو ہر نماز کے بعد پچیس بار پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم و فضل فرمائے گا۔ اور رحمت کے فرشتے اللہ سے رحم کی سفارش کریں گے۔

برائے فاتح

وَافْتَحْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ط

جو اس نام آیت شریف کو ہر نماز کے بعد پچیس بار پڑھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا نام فاتحین میں لکھے گا اور ہر معاملے میں پیش پیش رہے گا۔

برائے بخشش

وَاغْفِرْ لَنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ ہ

جو شخص اس آیت کو یک صد بار روزانہ صبح و شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ قبر روشنی سے منوّر ہو گی۔

برائے حفاظت

وَاحْفَظْنَا فَاِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِيْنَ ط

جو شخص اس جملہ کو روزانہ حفظ جان بنائے تو انشاء اللہ فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا۔

ہر دلعزیز رہنا

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ط

جو شخص اس آیت شریف کو موافق اسم کے اعداد نکال کر روزانہ پڑھ لیا کرے گا۔ انشاء اللہ ہر دلعزیز رہے گا۔ قساوتِ قلب دور ہو گی۔ مخلوق کی محبت دل میں پیدا ہو گی۔ آسانی کام ہوں گے۔

Scanned with CamScanner

اضطرابِ قلب

اَمَّنْ یُّجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوْٓءَ ط

جب کسی پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے اور پریشانی روز بروز بڑھتی جائے اور قلب مضطرب ہو اور کسی کروٹ چین نہ پڑتا ہو۔ نیند نہ آتی ہو۔ اور اُس کی برائی عالم میں پھیل رہی ہو یا چند اشخاص نے مل کر اُس کے خلاف کوئی درخواست محکمہ مافوق میں رشوت ستانی یا ظلم کی کر دی ہو تو اس آیت شریف کو اوّل وآخر اکیس اکیس بار درود شریف پڑھ کر اکتالیس ہزار بار دو ہفتہ میں پڑھ ڈالے۔ انشاء اللہ العزیز اضطرابِ قلب تو دوسرے تیسرے دن سے ہی جاتا رہے گا۔ لیکن عیوب کا دو عالم میں اظہار اور اس کا چرچا اور بے وقعتی کا دفعیہ دو ہفتہ پڑھنے سے جائے گا۔ اگر درخواست دی ہے تو خود وہ لوگ پریشان ہوں گے اور نادم ہو کر طالب معافی ہوں گے سینکڑوں بار کا تیر بہدف یہ عمل ہے۔

مقدمہ کی شہادت بگاڑ دینا

روزانہ بعد نمازِ عشاء سورۂ انبیاء اوّل تا آخر سہ بار درود شریف اوّل آخر گیارہ گیارہ بار پڑھ کر دعا مانگ لیا کریں۔ انشاء اللہ مقدمہ کا رنگ پلٹ جائیگا اور گواہ جس قدر خلاف ہوں گے مجرم کے یا موافق ہو جائیں گے یا مستغیث کے خلاف شہادت دیں گے۔ جس سے یا تو مقدمہ خارج ہو جائے گا یا موافقت میں ہوگا۔ یا صلح ہو جائے گی۔ ایک ہفتہ پڑھنا کافی ہے۔

غصہ کا ٹھنڈا کر دینا

اگر فریقین لڑ رہے ہوں فوراً یَا رَءُوْفُ یَا رَءُوْفُ اوّل وآخر تین تین بار درود شریف پڑھیں ایک تسبیح پوری نہ ہوگی کہ غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔

زبانی انگلیوں پر پڑھ لیں۔

Scanned with CamScanner

اپنے عیوب کی اصلاح کرنا

اگر کسی شخص کے اندر یہ مرض ہے کہ وہ دوسرے کے عیوب کو لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ جس میں سے وہ نوں فریق آپس میں لڑ جاتے ہیں اور وہ شخص مخلوق میں محض اس وجہ سے بدنام ہے کہ یہ تو آپس میں لڑانے والا۔ فساد کرنیوالا شخص ہے اُس کے سامنے کوئی بات نہ کرو ورنہ یہ اس سے کہدے گا اور آپس میں دل بگڑ جائیں گے پس اُس شخص کے واسطے یہ عمل تیر بہدف ہے۔

یَا حَمِیْدُ ۔ روزانہ ہر نماز کے بعد (۶۲) بار پڑھ لیا کریں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اَللّٰہُ اَللّٰہُ پڑھ لیا کریں۔ انشاء اللہ چند روز کے بعد جو بات وہ کرے گا۔ محبوب سمجھی جائے گی اور دل میں بُردباری پیدا ہوگی اور جب کبھی اس کے دل میں کوئی بات لڑانے یا فساد کرانے والی پیدا ہوگی۔ فوراً ایک کھٹکا دل میں پیدا ہوگا اور اُس کو خود بخود تنبیہ ہو جائے گی۔ کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور بات کو تبدیل کر کے خود بخود اصلاح پہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خوبی پیدا ہو جائے گی وہ یہ کہ دوسروں کے خیالات کا عکس اس کے

دل پہ تھوڑی دیر پہلے آ جائے گا۔ کہ یہ بات ہونیوالی ہے قلب خود آئینہ ہو جائے گا۔ اور ہر بُرائی بھلائی کا علم ہو جائے گا نیز جو شخص مشورہ لے گا۔ قلب میں جو بات آئے گی۔ صاف ستھری بے لوث ہوگی۔ تیر بہدف بسیار تجربہ شدہ عمل ہے اکثر حضرات نے اس کو ایک بیش بہا خزانہ سمجھ لیا ہے۔

ہر پریشانی کا دفعیہ

اوّل ایک تسبیح درُود شریف کی۔ کسی ایک وقت مقررہ پر پڑھے پھر رکعت کی نیت باندھے اس طرح کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز بر آئے۔ حاجات اللہ اکبر۔ پھر سُورہ فاتحہ ایک بار اور سورۂ لایلف ایک تسبیح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورۂ اخلاص ایک تسبیح پڑھ کر سلام پھیر دے بعد سلام کے ایک تسبیح درُود شریف پڑھ کر دعا مانگے۔ اگر پہلے ہفتہ میں کام ہو جائے پُورا ہفتہ پڑھ کر چھوڑ دے۔ ورنہ دوسرے ہفتہ میں بھی پڑھے اگر خدانخواستہ پھر بھی ناکامیابی ہو تیسرا ہفتہ پورا کرے۔ شرطیہ کامیابی ہوگی

روزانہ کا معمول

سورہ فاتحہ شریف ۷ بار۔ سورۂ اخلاص ۷ بار۔ سورۂ معوذتین ۷ بار روزانہ پڑھ لیا کریں ہر قسم کی گزندہ۔ سحر وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ پاک کو یہ صورتیں بہت محبوب ہیں اور اکثر بزرگان دین کا روزانہ معمول ہے۔

پھانسی کا حکم تبدیل ہو جانا

اللہ تعالےٰ نے سورہ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ط کی بے حد تعریف فرمائی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلے اللہ علیہ وآلہٖ وسلم پہ کفار نے جب سحر کیا تو فرشتوں کے ذریعہ سے مطلع کیا گیا۔ جب اُن کو علم ہوا اور سحر باطل ہوا۔ اس کی ایک بزرگ کامل نے بڑی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سورہ والناس تمام مطالب کے حل کرنے کے واسطے بڑی چیز ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک چلہ اگر کوئی شخص اسکو پڑھے تو پھانسی کا حکم تبدیل ہو جائے گا یا دس پانچ سال

کی سزا ہو جائے یا قطعی رحم پر چھوڑ دیا جائے پھر فرمایا اگر یقین کامل نہ ہو۔ آپ کسی پتھر پر پڑھ کر دم کریں۔ چالیسویں دن پتھر شق ہو جائے گا۔

روزانہ (۵،۴۶) مرتبہ پڑھنا چاہیئے۔ مسجد میں بعد نماز عشاء چار پانچ آدمی بیٹھ کر پڑھیں۔ نصف گھنٹہ میں ہو جاتا ہے اگر تین ہفتہ میں کام ہو جائے فہو المراد۔ ورنہ تین ہفتہ اور پڑھیں اور روزانہ سر بسجود ہو کر دعا مانگیں کہ اے بارالٰہا بطفیل حبیب پاک فلاں کو رہا فرما۔ آمین ثم آمین۔

انشاء اللہ العزیز رہائی ہو گی یا پھانسی کا حکم منسوخ ہو جائے گا خوش اعتقادی کے ساتھ پڑھنا چاہیئے۔

عام مخلوق میں محبوب

روزانہ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِیْمٍ ط ۸۸۰ مرتبہ پڑھے ایک ہفتہ کے بعد مخلوق کی محبت کا آغاز ہو گا اور ہر شخص خوش خلقی خوش مزاجی سے پیش آئے گا اور چالیس دن کے بعد خود بخود ہر شخص کی کشش محبت کی ہو گی اور عجیب وغریب طریقہ

سے محبت مخلوق کو ہوگی۔

ملازمت مِل جانا

اوّل وآخر گیارہ گیارہ مرتبہ دُرود شریف پھر یہ آیات روزانہ ایک تسبیح بعد نماز عشاء پڑھنا شروع کرے۔ دس دن میں انشاء اللہ نوکر ہو جاوے گا۔

يَا مُفَتِّحَ الْاَسْبَابِ يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ يَا دَلِيْلَ الْمُتَحَيِّرِيْنَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنَا تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ يَا رَبِّ وَ اُفَوِّضُ يَا رَبِّ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

اگر دس یوم میں ملازم نہ ہوں۔ گیارہ دن اور پڑھے۔ اکیس [21] دن پورے کرے انشاء اللہ ملازم ہو جائے گا۔ پڑھنے میں قواعد اور طریقہ ملحوظ رکھے اور ملازمت کا تذکرہ ملحوظ رکھے اور ملازمت کا تذکرہ احباب میں کرتا رہے اس لیے کہ امر من اللہ میں کسی کا چارہ نہیں ہے ناامید نہ ہو۔ لازمی خدا نے چاہا نوکری کے اسباب پیدا ہو کر برسر روزگار

ہوگا۔ روزانہ بعد ختم خلوص قلب سے سربسجود ہو کر دعا مانگتا رہے اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتا رہے۔

ہر دُعا کا مقبول ہونا

جمعہ کے دن جبکہ خطیب خُطبہ اولیٰ پڑھ کر ممبر پہ بیٹھے۔ قلب کو اللہ کی جانب لگائے۔ آنکھوں کو بند کرکے دِل ہی دل میں دُعا مانگ لے اسی طرح بعد نماز عصر اور کلام پاک کھول کر پڑھنے سے پہلے اسیطرح بعد ختم تلاوت دُعا مانگے۔ انشاء اللہ قبول ہوگی نیز اور بہت سے مواقع حدیث شریف میں اجابت دُعا کے مذکور ہیں۔

حروفِ مقطعات

الٓمّٓ ، الٓمّٓصٓ ، الٓرٰ ، کٓھٰیٰعٓصٓ ۔ طٰہٰ
طٰسٓمّٓ ۔ طٰسٓ ۔ یٰسٓ ۔ صٓ ۔ حٰمٓ ۔ حٰمٓعٓسٓقٓ
قٓ ۔ نٓ یہ کلام پاک میں حروف مقطعات ہیں۔

حروفِ نورانی

الف ۔ حا ۔ صا ۔ سین ۔ کاف ۔ عین ۔ طا
قاف ۔ را ۔ ھا ۔ نون ۔ میم ۔ لام ۔ یاء

حروف مقطعات کو روزانہ لکھ کر مچھلیوں کو گولی بنا بنا کر کھلائیں ہر ایک ہفتہ ہر ماہ میں ۔ پھر دوسرے ہفتہ میں لکھ کر آگ میں جلائیں ۔ پھر تیسرے ہفتہ لکھ کر اسے پاس رکھیں۔

پھر روزانہ صبح ایک بار اور شام کو ایک بار پڑھ لیا کریں ۔ چالیس روز کے بعد عامل ہو جائیں گے ۔

تمام دنیا کے کام ان حروف مقطعات و حروف نورانی کی بدولت پورے ہوں گے ۔ گنڈہ بنا کر جس مرض کے واسطے دیا جائے جلد شفا ہوتی ہے ۔ کھیت کے چاروں کونوں پر اگر تعویذ بنا کر دفن کر دیں ۔ اللہ پاک بے شمار خیر و برکت عطا فرمائے گا ۔ کھیتی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رہے گی ۔ نیز اجنّہ کی تقسیم سے بھی حفاظت ہو جائے گی ۔

دشمن کی ایذا سے محفوظ رہنا

اگر دشمن مغلوب الغضب ہے اور اس کا غصہ انتقام لینے پر مجبور کرتا ہے یا دھوکہ دیکر مار ڈالنے کا ارادہ کر رہا ہے ۔ ایسا موقع ہے کہ اُس مقام پر کوئی حامی و مددگار نہیں ہے ۔ پردیس کا معاملہ ہے سوتے میں مکان کے اندر گھس کر مار دینے کا خدشہ ہے ان سب صورتوں میں یہ عمل کریں ۔

آیت الکرسی شریف ایک تسبیح اول و آخر درود شریف سہ سہ بار پھر یا رؤف ایک تسبیح پھر قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
ایک تسبیح پڑھ کر دعا مانگے ۔ اس کے بعد تین بار آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھ پر پھونک کر تالی بجا کر خدا کا نام لیتا ہوا سو جائے ۔ کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ پڑھیں ۔

استخارہ کرنا

ہر کام کے واسطے استخارہ کر لینا ضروری ہے ۔ اس لیے کریں

علم آپ کو نہیں ہے فلاں ضرورت جو اس وقت درپیش ہے۔ کامیابی خدا جانے ہوگی یا نہیں۔ جب ایسی ضرورت پیش آجائے دو رکعت نماز نفل استخارہ برائے حاجات دینی یا دنیوی جو نیت ہو دل میں کرے اور یہ کہے کہ اس کا ثواب حضرت غوث پاک رح کو پہنچے اور نیت باندھے اب سورہ فاتحہ پڑھے جب اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پہنچے اسی کو پڑھے جائے اور عاجزی کے ساتھ اپنے اغراض پر نظر رکھے دس بیس مرتبہ پڑھے گا کہ دائیں یا بائیں جانب خود بخود پیر اکھڑ جائیں گے۔ اگر دائیں جانب گھومے کام ہوگا۔ بائیں جانب گھومے کام نہ ہوگا۔ جب دائیں جانب گھومے برابر اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ پڑھے جائے یہاں تک کہ گھوم کر پھر قبلہ رخ ہو کر اَلْحَمْدُ شریف پوری کرے سورہ اَلَمْ نَشْرَحْ سات بار پڑھ کر رکوع سجود کر کے دوسری رکعت الحمد شریف اور سورہ انا انزلنہ ۷ بار پڑھ کر سلام پھیر کر دس بار درود شریف پڑھ کر حضور کی روح کو بخش کر دعا مانگ لے اگر بائیں جانب گھوما ہے تو الٹی طرف سے گھوم کر دائیں جانب آجائے اور اسی قاعدہ سے پڑھ کر سلام پھیر کر عجز و انکساری کرے پھر دوسرے تیسرے دن کرے حل مطلب نکل آئے خدا کا شکر

بجالائے۔ پیر۔ جمعرات۔ جمعہ کی شب میں کرنا چاہیئے۔ اشد ضرورت میں بعد نماز عشا کرے تاکہ اطمینان قلب کو ہوجائے۔

گناہوں کا کفّارہ

اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ ایک تسبیح سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ یک تسبیح لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ یک تسبیح۔ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْعَظِیْمِ ایک تسبیح

جو شخص روزانہ ایک وقت مقررہ پر پڑھ لیا کرے گا انشاء اللہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہر مسلمان کو اپنا معمول بنا لینا ضروری ہے۔

حاکم کا مہربان ہوجانا

جس کسی شخص سے حاکم ناراض اور خفا ہوگا۔ اسکو چاہیئے کہ آیت شریف کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم سے لکھ کر بازو پر تعویذ بنا کر باندھ لے انشاء اللہ حاکم پانی پانی ہوجائے گا اور لطف و مہربانی

Scanned with CamScanner

سے پیش آئے گا۔

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط

اگر اتنا موقع مل جائے کہ پڑھ بھی سکے تو اس کے اعداد نکال کر روزانہ ایک ہفتہ تک بعد نماز عشاء پڑھ والے اور جب افسر یا حاکم عدالت کے سامنے جاوے برابر اس کو پڑھتا رہے خدا کو منظور رہے تو مہربان ہو جائے گا۔

ھدایت:۔ بعض اشخاص اپنی بدظنی کی وجہ سے اِدھر اُدھر مارے مارے پھرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہٗ کی درگاہ میں سربسجود نہیں ہوتے۔ نہ اس سے اپنا عرض حال کرتے ہیں۔ پریشان حال رہتے اور ناکامیاب ہوتے ہیں۔

ایک عظیم عمل اور مغفرت کیلئے

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ط

دشمن کیواسطے سفلی عمل

آدُم آدُم ترُ برُ چینا سُوَاہا اَدُلم تَبرُد برُ شنکرُ
ساَدَ ایا ہا

یہ سنسکرت کا وِدّہا ہے۔ نہایت تیز اثر رکھتا ہے۔ دشمن کے نقصان پہنچانے میں تیر بہدف ہے۔ روزانہ ۴۵ مرتبہ پاخانہ کی موری جس سے پانی نکلتا ہے۔ دونوں وقت ملتے یعنی مغرب کے وقت قبل غروب آفتاب بیٹھ کر ۴۵ دن تک روزانہ پڑھنا کافی ہے اسی قاعدے سے جس موری سے پانی نکل رہا ہے اور جس پہ بیٹھ پڑھا جا رہا ہے۔ آخر دن ختم پر اس موری سے خون نکلتا ہوا خود بخود معلوم ہوگا۔ اور اسی کو ۴۵ مرتبہ پڑھ کر دم کرکے پلانے سے وہ اچھا ہو جائے گا۔ ضرورت سمجھیں دو چار دن پلا دیں۔

فائدہ:۔

میرا خیال ناقص یہ ہے کہ ہمیشہ دشمن کو محبوب بنانے کی کوشش کرنا چاہیئے۔ وہ خود شرمندہ ہوگا اور معذرت چاہے گا۔

دیکھئے بہادر وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو

مارے۔ اس میں بڑے بڑے جوہر پوشیدہ ہیں جو لوگ اس مقولہ
پر عامل ہیں ہمیشہ لطف کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہر شخص کو اس پر عمل
کرنا چاہیئے۔ اگر انتقام ہی لینا منظور ہے تو صفت عشرہ پڑھ لے۔
کافی سزا خود بخود اس کو مل جائے گی۔ اس سے زائد کی اجازت نہیں
ورنہ خود نقصان اٹھائیں گے خوب یاد رکھیں اور قطب و قبلہ کی جانب
منہ نہ کریں اُسے چھوڑ کر پڑھیں۔

ہر نماز کے بعد وظیفہ

اَللّٰھُمَّ بَارِكْ لِیْ فِی الْمَوْتِ وَفِیْ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ ۵ مرتبہ

ترجمہ:- اے اللہ برکت دے بیچ میری موت کے اور موت کے بعد

اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۵ مرتبہ

بیشک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنیوالوں سے۔

اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ

اے اللہ نجات دے مجھے دوزخ سے۔

ہر مشکل کے لیئے نقش

یا جبرائیل — یا اسرافیل

٦٩٧	٧٠٢	٦٩٤
٦٩٥	٦٩٨	٧٠٠
٧٠١	٦٩٣	٦٩٩

یا میکائیل — یا عزرائیل



ہر کٹھن مشکل کے حل کے لیے یہ نقش اپنے پاس رکھیئے۔
جادو کیلئے۔ آسیب کے لیے۔ کاروبار کیلئے۔ دشمن کے خوف کیلئے
رشتہ کیلئے۔ خیر و برکت کے لیے۔ ہر مشکل آسان۔ قیدی کی رہائی کیلئے

ہر مہم کا حل

دو قبروں کے درمیان بیٹھ کر بعد نماز عشاء پڑھنا شروع کرے اکیس یوم میں پورا ہو گا۔

بَحَقِّ اَهْبَا۔ شَرَاهِيًا اَجِيْبُوْلِیْ وَاْتُوْنِیْ هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْاَرْضِ وَ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا وَمَا یَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا یَعْرُجُ فِیْھَا وَھُوَ مَعَکُمْ اَیْنَ مَا کُنْتُمْ وَاللّٰہُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ ط (سورہ حدید ۲۷ پارہ ع ۱

ترکیب :۔ روزانہ بعد نماز عشا تین ہفتہ تک دونوں قبروں کے درمیان بیٹھ کر پڑھنا چاہیئے (۳۶۵) مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ قبرستان میں جاکر پڑھنا چاہیئے کوئی ڈر خوف نہیں ہے آخر دن پر یعنی اکیسویں دن ہمزاد برہنہ مادرزاد آدے گا کپڑے علیحدہ رکھے ہوئے دونوں قبروں کے درمیان لیٹا ہوا ہوگا یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ وہ دائیں جانب پڑھنے والے

کے لیے ذرا سی جگہ سرہانے کی طرف قبر کے چھوڑے گا اُس جگہ پر خاموش بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر وہ آپ کو پکارے ہرگز مخاطب نہ ہوں نہ جواب دیں نہ آپ اُس سے کلام کریں۔ بعد ختم وہ کپڑے پہن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا حکم ہوتا ہے۔ کہنا کہ اس عمل کے موکّل کو حاضر کرو اور جلد حاضر کرو مابعد فوراً غائب ہو جائے گا۔ اور چند منٹ کے بعد موکّل حاضر ہو گا۔ موکّل پوچھے گا فرمایئے کیا حکم ہوتا ہے آپ جو کام ہو کہہ دیں صحیح انشاء اللہ ہو جائے گا۔ جب موکّل حاضر ہو آپ اس سے کہیں اپنے طلب کرنے کا مجھے طریقہ بتلاؤ۔ وہ آپ کو بتلائے گا جب تک وہ نہ بتلائے اجازت جانے کی ہرگز نہ دیں اور وہ خود بھی بلا اجازت آپ کی نہ جائے گا۔ جب بتلا دے اس کے بعد آپ اپنا کام اُس پر ظاہر کریں۔

نیز جو صاحب پڑھنا چاہیں۔ صرف لحم البقر مچھلی۔ انڈا نہ کھائیں جنات اگر ڈرائیں تو ہرگز نہ ڈریں آنکھ بند کر لیا کریں۔ اور اپنے کام میں مشغول رہیں۔

نوٹ :۔

وہ شخص قبر کے سرہانے کی طرف ذرا سی جگہ چھوڑ دے

عامل اس جگہ بیٹھ کر پڑھے۔

معشوق کے لیے

معشوق کے لیے یہ تعویذ لکھ کر بیل کے پتے پر ایک طرف یہ نقش لکھے اور دوسری طرف سورہ الکوثر لکھ کر معہ نام معشوق اور اس کی والدہ اپنا نام لکھ کر اور اپنی والدہ کا نام کسی درخت کے ساتھ ہوا میں باندھ دیں معشوق حاضر ہو جائے گا۔

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱۴	۱	۸	۱۱
۷	۱۲	۱۳	۳
۹	۶	۳	۰
۴	۱۵	۱۰	۵

حسبِ منشا شادی

آج کل لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ ماں باپ کے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے گھر گھر شادی کے انتظار میں لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اللہ تعالےٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ماں باپ کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے یَا لَطِیْفُ کا عمل نہایت مجرب ہے یَا لَطِیْفُ کے اعداد ۱۲۹ ہیں اور ۱۶۶۴۱ مرتبہ نام پڑھا جاتا ہے آسان طریقہ یہ ہے۔

ایک تسبیح میں ۱۲۹ دانے ڈالے جائیں اور ۱۲۹ مرتبہ تسبیح پڑھی جائے اور ہر تسبیح کے بعد لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کو تین دفعہ پڑھ کے زبان سے مقصد بیان کرے اور پھر یَا لَطِیْفُ کی تسبیح شروع کر دے اسی طرح سارا عمل ختم کیا جائے۔

انشاء اللہ تعالےٰ عمل کے دوران ہی رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔

Scanned with CamScanner

میاں بیوی کا اختلاف

میاں بیوی سے ناراض ہو یا بیوی میاں سے ناراض ہو۔ دونوں میں سے جس کو ضرورت ہو رات کو سونے سے پہلے لیٹ کر یَا مَانِعُ پڑھتے پڑھتے سو جائے۔ دلوں کی کدورت دور ہو جائے گی۔ اور آپس میں اتفاق ہو جائے گا۔

شادی میں رکاوٹ

لڑکی یا لڑکے کی شادی نہ ہوتی ہو اور پیغام آنے کے بعد بغیر کسی وجہ کے رشتہ ختم ہو جاتا ہو اور حسب منشا شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی خود یا ان کی ماں بعد نماز عشا تین سو ۳۰۰ مرتبہ یَا مُغْنِیُ پڑھیں۔ عمل کی مدت نوے ۹۰ دن ہے

یہ عمل ناغہ کے دنوں میں بھی کیا جائے گا۔

یہی تاثیر اللہ تعالےٰ کے اسم یَا مُعْطِیُ کی بھی ہے

اپیل میں کامیابی

مقدمہ میں ناکامی کے بعد اپیل کے وقت یَا مَالِكُ الْمُلْكِ کا اجتماعی طور پر چالیس ۴۰ دن میں سوا لاکھ مرتبہ ختم کیا جائے۔ انشاء اللہ اپیل میں کامیابی ہوگی۔

گناہوں سے نفرت

اللہ تعالےٰ اپنے بندوں کی تمام خطائیں معاف کرکے عفو ودرگزر سے کام لیتے ہیں یَا عَفُوُّ کثرت کے ساتھ پڑھنے سے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالےٰ کے ساتھ دلی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔

ایکسیڈنٹ سے حفاظت

کسی کام کو شروع کرتے وقت اکتالیس ۴۱ مرتبہ یَا رَافِعُ پڑھا

جائے انشاءاللہ تعالیٰ سفر بخیر وعافیت گذرے گا۔ اور حادثات سے محفوظ رہیں گے۔

معرفتِ حق

صراطِ مستقیم پر چلنے انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شریک ہونے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نفلوں کے بعد اوّل وآخر درود شریف کے ساتھ یَاھَادِیُ پڑھ کر پندرہ منٹ تک مراقبہ کیا جائے۔

گھر میں خیر و برکت

با وضو یَابَدِیْعُ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، تو سچے خواب نظر آتے ہیں۔ اور مستقبل میں پیش آنے والے حالات و واقعات کا علم ہو جاتا ہے۔ یہی اسم اگر سو مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے۔ تو غم پریشانی سے نجات مل جاتی ہے۔ کاروبار معاش میں رکاوٹیں درپیش ہوں، تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ گھر کے افراد آپس

میں شیر و شکر بن کر زندگی گزارتے ہیں۔

بنجر زمین کیلئے

زمین بنجر ہو یا سیم اور تھور کے زیر اثر ہو یا زمین بظاہر ٹھیک ہو لیکن زمین کے اندر بیج کی صحیح نشو و نما نہ ہوتی ہو تو دس سیر چکنی مٹی پر گیارہ سو مرتبہ یَابَاقِیُ پڑھ کر دم کریں اور یہ مٹی سارے کھیت میں بکھیر دیں۔

دل کی فرحت

یَاوَارِثُ بکثرت پڑھنے سے عمر میں اضافہ اور دل میں فرحت اور سرور پیدا ہوتا ہے۔

کسی بھی وقت نماز کے بعد ستّر مرتبہ یَاغَنِیُّ کا ورد کرنے سے مال و دولت میں اضافہ اور اولاد کی برکت کے لیے بڑا مجرب وظیفہ ہے۔

Scanned with CamScanner

مقدمہ میں کامیابی

فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے اول و آخر ۳ ۳، ۳۳۳ بار درود شریف کے ساتھ تین سو ۳۰۰ بار یَا مَلِکُ پڑھنے سے دشمن کے شر سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالےٰ مقدمہ میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔

بیماری سے نجات

اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، وضو بغیر وضو یَا سَلَامُ کا ورد کرنے سے آدمی آفاتِ ارضی وسماوی سے اور دنیاوی مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے

تنتیس ۳۳ مرتبہ پانی پر دم کرکے بیمار کو پلانے سے ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اس اسم مبارک کی برکت سے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔

کاروبار میں ترقی

کسی کاروبار کی ابتدا کرنے سے پہلے صبح، دوپہر، شام، رات یَا مُتَکَبِّرُ پڑھنے سے کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس اسم کا مستقل ورد کرنے والا منکسر المزاج، حلیم الطبع ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث سعادت اور برکت سمجھتا ہے اور لوگوں میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

ملازمت میں ترقی

کسی شخص کو ملازمت نہ ملتی ہو۔ نوکری سے برخاست ہو گیا ہو یا ترقی کی بجائے عہدہ یا منصب سے گرا دیا گیا ہو اور ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود کامیابی نہ ہوتی ہو۔ ایسی صورت میں آدھی رات گزرنے کے بعد باوضو دو نفل ادا کرنے کے بعد ننگے سر، قبلہ رُخ کھڑے ہو کر تین سو مرتبہ یَا عَزِیْزُ پڑھ کر اللہ تعالےٰ کے حضور

نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ مقصد پورا ہونے کی دعا کی جائے۔ انشاء اللہ عمل کرنے والا شخص اپنے عہدہ پر دوبارہ فائز ہو جائے گا اور اسے مزید ترقی نصیب ہوگی۔

ہر دلِ عزیز ہونے کا طریقہ

بلند مرتبہ حاصل کرنے، عزت و وقار کے ساتھ رہنے، اپنے پرایوں میں ہر دل عزیز ہونے، نیز چہرہ میں وجاہت اور کشش پیدا کرنے کے لیے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک سو ایک (۱۰۱) مرتبہ یَا رَحِیْمُ کا ورد کریں اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیں۔

آنکھوں میں روشنی

اسٹیل کے برتن میں پانی پکا کر ٹھنڈا کریں۔ زوال کے وقت ۱۵۴ مرتبہ یَا رَحْمٰنُ پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ دم شدہ پانی چاندی کی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔

اس اسم کی برکت سے آنکھوں کے امراض جو گرمی، سردی

چوٹ، گرد و غبار اور دھواں لگنے سے لاحق ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں۔

آسیب سے نجات

اگر کسی گھر میں آسیب کا شبہ ہو اور گھر میں رہنے والے لوگ یہ محسوس کریں کہ اس گھر میں جن یا بھوت پریت کا بسیرا ہے یا گھر میں سانپ وغیرہ زیادہ نظر آتے ہوں تو ایک کاغذ پر اکیس (۲۱) مرتبہ یَا قَہَّارُ لکھ کر گھر میں ہرے بھرے درخت کی شاخ میں باندھ دیں اگر گھر میں درخت موجود نہ ہو تو گھر کے قریب کسی درخت میں یہ تعویذ باندھ دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے گھر آسیب اور دوسری بلاؤں سے بالکل محفوظ رہے گا۔

دو جگ کے تاج دار سردارِ کونین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آمین

تعویذات

برائے عداوت دشمنی

اگر کوئی کسی کو ناحق ستاتا ہو اور طرح طرح کی تکالیف دیتا ہو اور اس میں مقابلے کی طاقت نہ ہو تو پاک صاف ہو کر اس نقش کو لکھے۔ انشاءاللہ تکلیف دینے والا خود تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ بڑا دکھ پائے گا۔ تعویذ اپنے بازو پر باندھے۔ یا

۷۸۶

۱۵۸۹	۱۵۸۰	۱۵۸۷
۱۵۸۳	۱۵۸۶	۱۵۸۸
۱۵۸۱	۱۵۹۰	۱۵۸۲

ترکیب: بکری یا بکرے کا دل لیں۔ اس کو درمیان سے چیریں۔ اس کے دو ٹکڑے بنا لیں اور اس تعویذ کو لکھ کر ان ٹکڑوں کے درمیان رکھیں اور دونوں ٹکڑوں کو ملا کر کپڑے سے باندھ دیں۔ پھر کڑوے تیل میں اس کو تر کریں۔ اور کچھ تیل کسی برتن میں ڈال کر اس کو جلائیں اور اس آیت کو ۷۵۷۴ مرتبہ پڑھیں۔

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى

اَلْاَفْـِٕدَةِ ؕ

برائے پاگل کُتّے کاٹے کیلئے

اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ لے تو کمہار سے چک کی مٹی لائے۔ پھر اس مٹی پر کلمہ تمجید پڑھ کر دم کرے اور اس مٹی کے غلیلے بنائے۔

غلیلے نابالغ بچوں کے ہاتھ میں دے اور ان سے کہے کہ ایک ایک کر کے غلیلوں کو توڑیں۔ یہ عمل تین دن کریں۔

اس کے بعد حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کا حلوے پر ختم دلائیں۔ حلوہ تیار کرنے والا حقہ استعمال نہ کرتا ہو۔

نیچے دیئے گئے تعویذ کو سگ گزیدہ کو گھول کر پلائیں۔ تعویذ عرق گلاب اور زعفران سے لکھیں۔ سگ گزیدہ کو سوا مہینہ پلائیں ایک تعویذ گلے میں ڈالیں۔

عرق گلاب پر ۱۴۱ بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد ؕ پڑھ کر دم کریں۔ اوّل و آخر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اس عرق کو بھی سوا مہینہ استعمال کریں۔

مریض کو پانی کے قریب نہ جانے دیں۔ نقش اگلے صفحہ پر۔



برائے دردِ زہ

اس تعویذ کو چاندی میں مڑھ کر گلے میں ڈالیں۔ دھاگہ اتنا لمبا ہو جو ناف تک لٹکتا رہے۔ پیدائش کے بعد بچے کے گلے میں ڈال دیں۔

۷۸۶

اللہ	قل	اللہ
قل	اٹھرا	ہے
اللہ	قل	اللہ

برائے اسقاط حمل

یہ تعویذ اسقاط حمل کیلئے مفید ہے۔ ایک تعویذ لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالا جائے، دوسرا تعویذ ۹ عدد لکھے اور بکری کے دودھ میں گھول کر روزانہ ایک ایک تعویذ ۹ دن تک پلائیں۔ اس طرح ۹ مہینے تک

Scanned with CamScanner

بکری کے دودھ میں گھول کر پلائیں۔ گلے میں ڈالنے کا تعویذ یہ ہے

۷۸۶

یارب جبرائیل	یا قیوم	یارب میکائیل
یا قیوم	یا قیوم	یا قیوم
یارب اسرافیل	یا قیوم	یارب عزرائیل

گھول کر پلانے کا تعویذ یہ ہے۔

۷۸۶

یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
یا اللہ	یا اللہ	یا اللہ
	یا اللہ	

برائے حُبّ

اگر کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہو تو یہ تعویذ عروج ماہ میں جمعرات کے دن کورے سکورے پر لکھے اور اسے آگ پر رکھے سات روز تک متواتر آگ جلتی رہنی چاہیئے۔ انشاءاللہ تعالےٰ مطلوب

حاضر ہوگا۔

اگر درمیان میں آنچ کی کمی رہ گئی تو کام نہ ہوگا۔ تعویذ معظم یہ ہے



برائے حُبّ

یہ تعویذ بھی حُبّ کے لیے ہے جمعہ یا پیر کے روز یہ نقش لکھا جائے اور اسے مطلوب کے بالوں میں لپیٹ کر سات روز تک جلائے۔

نقش یہ ہے۔

عص	لا	لا	۱۱	لا	۱۱	وا
۵	۷	۲۱	ر	۴	۴	۴
۴	۱۵	۷۱	۸۶	۱۱۱	لا	لالا

Scanned with CamScanner

برائے حُبّ

مطلوب کا کپڑا حاصل کرکے اس پر ذیل کا تعویذ لکھے۔ جمعرات کے دن آگ میں جلائے۔ پانچ جمعراتوں تک یہی عمل کرے۔ مطلوب حاضر ہوگا۔ مجرب ہے۔

۴ ۴ ۹ ۹ ح ح ع ع ع ۴ ۴ ۲ ۵ فلاں بنت فلاں

برائے حُبّ

اس تعویذ کو لکھ کر اپنی مطلوبہ کو شربت میں دھو کر پلائے۔ مطلوب فریفتہ ہو کر فوراً حاضر ہوگا۔

۷۸۶

۹	۱۲	۱۵	۲
۱۴	۱	۸	۱۳
۴	۷	۱۰	۷
۱۱	۶	۵	۱۶

کسی کو بے قرار کرنا

اس تعویذ کو لکھ کر کسی درخت کی شاخ پر باندھے یہ تعویذ جونہی ہوا سے حرکت کرے گا مطلوب مضطرب ہوکر حاضر ہوگا نقش مجرب الخواص یہ ہے۔

۸	۳	۴	الحب فلاں بن فلاں علی حب	۶	۷	۲
۱	۵	۹		۱	۵	۹
۶	۷	۲	فلاں بن فلاں	۸	۳	۴

برائے دشمن کی ہلاکت کیلئے

بدھ کے دن یہ نقش لکھے اور اس کے نیچے دشمن اور اس کی ماں کا نام بھی لکھ دے اور اس تعویذ کو لپیٹ کر مینڈک کے منہ میں رکھ دے اور مینڈک پر دھاگہ لپیٹ کر مرگھٹ میں لے جائے اور اس کو وہیں گاڑ دے۔ ۴۰ روز میں اثر ظاہر ہوگا۔

تعویذ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں

علا صلح

ع وہ امن ورف وع ۱۱۱ الہ بسم اللہ صبح

ع ی صبح ۱۱ ۱۹۳ ۹۳

دشمن کا نام اور اسکی والدہ کا نام لکھیں

برائے جدائی کے لیئے

یہ تعویذ لکھ کر آگ میں جلائے۔ جن لوگوں میں جدائی کرنا ہو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام تعویذ کے نیچے لکھ دے۔ تین روز میں اثر ہوگا۔ نقش یہ ہے۔

عجح عجح عجح دق ق ہی فی نفسا سم فلاں بن فلاں

دشمن کو ذلیل کرنا

اس تعویذ کو لکھ کر دشمن کی چوکھٹ کے نیچے گاڑ دیں تو اس

گھر کے تمام آدمی بیمار ہو جائیں گے۔ نقش یہ ہے۔

		۹		
		۷		
۸	۴	۱۰	۲	۵
		۳		
		۱		

برائے نظر بد

اگر بچے کو نظر لگ جائے تو یہ تعویذ لکھ کر اس کے گلے میں ڈالیں۔ انشاء اللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔

۷۸۶

ص	و	۲	دو
و	دو	و	و
ح	دو	و	ج
صبح	و	و	ر
۳۵	۶	۶۳	۴
۶۴	۴۱	۴۶	۶۱
۴۲	۶۵	۴۸	۴۵
۴۹	۴۴	۴۳	۶۴

بچے کا رونا اور ضد کو دور کرنا

اگر بچہ زیادہ روتا ہو تو یہ تعویذ لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں اس کی یہ عادت چھوٹ جائے گی۔

اگر آپ کے بچے میں ضد، ہٹ دھرمی اور بدتمیزی کی عادتیں ہیں۔ تو یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۵	۶	۶۴	۴
۶۴	۴۱	۴۶	۶۱
۴۲	۶۵	۴۶	۴۵
۴۹	۴۴	۴۳	۶۴

دکان کی خرید و فروخت کیلئے

جس کی دکان میں کم مال فروخت ہوتا ہو۔ اس تعویذ کو لکھ کر دکان میں چسپاں کرے۔ مال بہت فروخت ہوگا۔

۲۵

ععععععععععععععععععععععععععع

برائے فتوحات

عارف کامل اس کو نقش ہزارہ کہتے ہیں۔ فتوحات کے لیے ہے۔

222222222222222 111

کسی کا محتاج نہ ہوگا

جو کوئی بعد نماز صبح اس نقش مکرم کو دیکھ لیا کرے گا۔ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ مگر بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس رکھے۔

۷۸۶

۳۴	۲۹	۳۷
۳۹	۳۳	۳۱
۳۰	۳۸	۳۲

دیگر

جو کوئی اس تعویذ کو اپنے پاس رکھے گا یا ہر روز نگاہ بھر کر ایک مرتبہ اس تعویذ کو دیکھے گا۔ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ رزق زیادہ ہوگا اور مال میں برکت پیدا ہوگی۔ نقش اگلے صفحہ پر دیکھئے

منلج	ہلج
ہلج	ہلج

برائے کشادہ رزق

یہ تعویذ کشادہ رزق کے لیے بڑا مجرب ہے۔ عرق گلاب اور کیسر سے لکھ کر اپنے پاس رکھے رزق میں کمی نہ آئے گی۔
نقش یہ ہے۔

ھیج	ھیج	ھیج	ھلج

برائے وسیع رزق

جو کوئی اس نقش کو اپنے پاس رکھے گا اور نماز فجر کے بعد اسے روزانہ دیکھے وہ دنیا میں محتاج نہ رہے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

یا حی یا قیوم یا حنان یا منان

یا دیان یا سبحان یا برھان یا سلطان

یا غفور یا غفور یا منحان

مروح مروح مروح مروح



برائے آفتوں سے بچنے کیلئے

جو کوئی اس نقش مکرم کو اپنے پاس رکھے۔ عزیز خلائق ہو۔ اگر ٹوپی میں رکھے تو حاسدوں اور بدگوؤں کی زبان بند ہو۔ اگر کوئی انگوٹھی میں کندہ کرائے تو تمام آفتوں سے بچا رہے گا۔ دشمن سے اسے کبھی گزند نہ پہنچے۔ عزیز خلائق ہو۔ نقش یہ ہے۔



Scanned with CamScanner

میاں بیوی کی ناچاقی کیلئے

اگر میاں بیوی میں ناموافقت ہو تو اس نقش کو لکھ کر دونوں کو پلادے موافقت ہو جائے گی۔

س	دو	سرہ	رو
ط ط	ع	ع	رو
ح ح	ع ط	ح د	ح ڈ

برائے عزیز خلائق

جو شخص اس تعویذ کو اپنی ٹوپی یا عمامہ میں رکھے وہ عزیز خلائق ہو۔ نقش یہ ہے

ماطلعت ۱۲ سحح

مجرب اور آزمودہ ہے

برائے حُبّ

اگر اتوار کے روز سورج نکلنے سے پہلے یہ تعویذ لکھ کر پتھر کے نیچے دبا دیا جائے تو جسے چاہا جائے گا وہ چاہنے لگے گا۔

نقش یہ ہے۔



اسی مقصد کے لیے دوسرا تعویذ یہ ہے



محبُوب کو دیوانہ کرنا

اگر محبوب کو اپنے عشق میں دیوانہ بنانا ہو تو یک شنبہ کے روز اس تعویذ کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھے یا چرخے میں گھمائے۔



شوہر کو مطیع کرنا

اگر کسی عورت کا شوہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہو یا کہیں دُور رہ ہو تو اس نقش کو لکھ کر کسی پھل دار درخت میں لٹکا دے۔ اس کا مرد جلد واپس آجائے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷	۱۱	۶	۹	۱۲
۱۱۹	۱۱	۱۳	۶	۱۱۴

نقش ۲ اسی مقصد کے لیے ایک اور تعویذ یہ ہے۔

۱۲ ۱۳ ندا ع ۲۲ صه ۱۱ ۱۱

ی ع ۱۳ ۲ عح عع رعع

مطلوب کو بے قرار کرنا

برائے محبت اس فلیتہ کو لکھ کر چراغ میں جلادے۔ مطلوب بیقرار ہو جائے گا۔ نقش اگلے صفحہ پر

ع ۱۱ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۷ ۱۱۱ ۱۱۱۱ صه ع ۱۱۱۳ ععع ۱۱۱۳ ۱۴۱۱ ع

برائے حُبّ الانسان

حب الانسان لکھ کر پتھر کے نیچے دبا دو۔ نقش یہ ہے۔



عسقالانے العجل العجل الوحّا الوحّا

الساعۃ الساعۃ

برائے حمل قرار پانا

اگر کسی عورت کا حمل ہر بار گر جاتا ہو تو اس نقش مکرم کو لکھ کر حمل کے زمانے میں عورت کی کمر میں باندھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ برقرار رہے گا اور فرزند ارجمند پیدا ہوگا۔

۷۸۶

۷۲	۷۵	۷۸	۶۵
۷۷	۶۶	۷۱	۷۶
۶۷	۸۰	۷۳	۷۰
۷۴	۶۹	۶۸	۷۹

برائے مسان

یہ نقشِ مکرم چہل کاف کا ہے۔ ہر قسم کے آسیب و مسان کے لیے مفید ہے۔ کیسا ہی آسیب کا اثر ہو۔ اللہ کے فضل سے باندھتے ہی دور ہو جائے گا۔

لوبان کی دھونی دے کر باندھے نقش اگلے صفحہ پر دیکھیے

۷۸۶

۳۹۰۹	۳۹۰۴	۳۹۱۱
۳۹۱۰	۳۹۰۸	۳۹۰۶
۳۹۰۵	۳۹۱۲	۳۹۰۷

آدھے سر کے درد کیلئے

اس نقش کو ساعت مشتری میں لکھ کر موم جامہ میں لپیٹ کر جس طرف درد ہو باندھیں یہ تعویذ سورج نکلنے سے پہلے باندھے۔ شام کو کھول ڈالیں۔ اس طرح تین یوم برابر کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ آرام ہوگا۔ مجرّب ہے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب
یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب
یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب
یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب	یاحبیب

دیگر

اس نقش مکرم کو دردِ شقیقہ کے لیے ساعتِ مشتری میں لکھیں اور

جس طرف سر میں درد ہو باندھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفایاب ہوگا۔

وہ نقش یہ ہے۔

میکائیل ۷۸۶ جبرئیلؑ

۱۶۴۴	۱۶۴۷	۱۶۵۰	۱۶۳۷
۱۶۴۹	۱۶۳۸	۱۶۴۳	۱۶۴۸
۱۶۳۹	۱۶۵۲	۱۶۴۵	۱۶۴۲
۱۶۴۶	۱۶۴۱	۱۶۴۰	۱۶۵۱

اسرافیلؑ عزرائیلؑ

برائے استقرار حمل

اگر کسی عورت کو حمل نہ رہتا ہو یا ضائع ہو جاتا کرتا ہو تو اس نقش معظم کو لکھ کر عورت کے گلے میں یا کمر میں باندھیں۔ مجرب ہے

شیرینی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فاتحہ دے کر نقش کو لکھے



برائے اٹھرا

اگر کوئی شخص اس دعا یا عبارت کو لکھ کر اس عورت کو جس کے اولاد نہ ہوتی ہو دے اور وہ اس کو موم جامہ کر کے اپنے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالیٰ وہ عورت اسی مہینے میں حاملہ ہوگی اور جو کسی درخت میں باندھ دے تو وہ بھی خوب پھلے پھولے گا۔

وہ دعا یہ ہے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

هو هو هو هو هو هو هو الله الله الله الله
الله الله الله حيٌّ حيٌّ حيٌّ حيٌّ حيٌّ حيٌّ حيٌّ
قيوم قيوم قيوم قيوم قيوم قيوم قيوم
و صلی الله تعالیٰ علیٰ خیر خلقه محمد
و آله و اصحابه اجمعین

برائے مرگی

یہ آیت و حروف مقطعات مع بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کاغذ پر لکھ کر تانبے کے تعویذ میں رکھ کر مریض کے گلے میں ڈالے آیات

یہ ہیں۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الٓمٓصٓ طسٓمٓ کٓھٰیٰعٓصٓ یٰسٓ والقرآن الحکیم

حٰمٓعٓسٓقٓ نٓ والقلم وما یسطرون ہ

اور اسی کو پڑھ کر سات روز تک مریض کے بائیں کان میں دم کرتا رہے انشاء اللہ تعالےٰ مرگی کا مرض جاتا رہے گا۔

بچہ کی پسلی کے لیے

جس بچہ کی پسلیاں چلتی ہوں تو چاہیئے کہ اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے اور ڈورا اتنا لمبا لیا جائے کہ تعویذ بچے کے کوڑی یا فم معدہ پر پڑا رہے تاکہ دونوں پسلیوں سے ٹکراتا رہے انشاء اللہ تعالےٰ بچے کو پسلی کے درد سے شفا ہوگی مجرب ہے۔ نہلاتے وقت یہ تعویذ بچے کے گلے سے اتار لیا جائے اور نہلانے کے بعد پھر گلے میں ڈال دیا جائے۔

بسم اللہ یشفیک واذ قتلتم نفسًا فادّٰرئتم
بسم اللہ کل داءٍ بسم اللہ یوذیک

بحق ایں نقش عارضہ پسلی دفع شود

بواسیر کے لیے

جس عورت یا مرد کو بواسیر کی شکایت ہو تو اس کو چاہیئے کہ عروج ماہ (شروع مہینہ) میں نوچندی جمعرات یا پیر یا جمعہ کو مشتری یا زہرہ کی ساعت میں چالیس نقش با وضو لکھے اور ہر روز ایک نقش چالیس دن تک کنوئیں کے پانی سے دھو کر پیئے۔ مجبوری میں نل کا پانی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ انشاء اللہ تعالےٰ شفا ہوگی۔ مجرب ہے۔ اس تعویذ کے پانی کو نہار منہ پیے اور پینے کے آدھ گھنٹے بعد ناشتہ کرے وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۲۶۱۵۷۱	۲۶۱۵۷۴	۲۶۱۵۷۷	۲۶۱۵۶۴
۲۶۱۵۷۶	۲۶۱۵۶۵	۲۶۱۵۷۰	۲۶۱۵۷۵
۲۶۱۵۶۶	۲۶۱۵۷۹	۲۶۱۵۷۲	۲۶۱۵۶۹
۲۶۱۵۷۳	۲۶۱۵۶۸	۲۶۱۵۶۷	۲۶۱۵۷۸

بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیءٌ فی الارض ولا فی السماء وھو السمیع العلیم

برائے نظر بد کے لئے

جس شخص کو نظر لگ گئی ہو ان حروف کو لکھ کر تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے ۔ وہ یہ ہے ، انشاء اللہ تعالےٰ اثر جاتا رہے گا ۔

ما ما ص ص ص حم حم حم ۲ لا د

ع ع

ناف کے ٹل جانا

اگر کسی کی ناف ٹل گئی ہو تو اس نقش مبارک کو لکھ کر موم جامہ کر کے کمر میں باندھیں ۔ خواہ دھجی میں سی کر یا تعویذ پر کپڑے کا غلاف چڑھا کر ڈورے کے ساتھ باندھیں لیکن تعویذ ناف پر رہنا چاہیئے ۔ انشاء اللہ ناف اپنی جگہ پر آجائے گی وہ نقش مکرم یہ ہے ۔

۷۸۶

د	ح	ب	ا
ی	ا	د	۲
۴	ص	۲د	د

تلّی کا بڑھ جانا

جس کسی کی تلی بڑھ گئی ہو تو اس کو چاہیئے کہ اس نقش کو جو آگے آرہا ہے کاغذ پر لکھ کر تلی کے مریض کے بائیں ہاتھ پر رکھے اور اس نقش کے اُوپر ایک ڈھیلا سفید مٹی یعنی پوتنی مٹی کا رکھے اور سورۃ اخلاص پوری گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس ڈھیلے پر دم کرے اور اس مریض کی تلی کو ایک دوسرا شخص پکڑا رہے اور لوبان بھی سُلگائے تو بہتر ہے ۔ اس عمل کو تین روز یا پانچ روز برابر کرے ، آرام آنے پر چھوڑ دے ۔

انشاء اللہ تعالےٰ مریض شفا پائے گا ۔



دشمن پر غالب ہونا

جو شخص موم جامہ کر کے اس نقش کو اپنے بازو پر باندھے گا ۔

Scanned with CamScanner

انشاء اللہ تعالےٰ وہ دشمنوں پر کامیابی حاصل کرے گا اور اس کے دشمن ذلیل وخوار ہوں گے۔ وہ نقش مکرم یہ ہے۔

یاعزیز ۷۸۶ یاعزیز

۳۲	۲۷	۳۵
۳۴	۳۱	۲۹
۲۸	۳۶	۳۰

یاعزیز یاعزیز

برائے باندھنے عورت اور مرد کے

یہ نقش مکرم مرد اور عورت کے واسطے ہے۔ مرد کے باندھنے کے لیے اگر یہ نقش دے تو یہ عبارت نقش کے نیچے لکھے

بستم ذکر فلان بن فلان بر فرج فلان بنت فلان

اور اگر عورت کے باندھنے کے لیے لکھے تو یوں لکھے۔

بستم فرج فلانۃ بنت فلانہ بذکر فلان بن فلان بحق هذه الاسماء الاعظم

امانت سے نقش کو باندھ کر پانی کی جگہ دفن کردے

نقش اگلا صفحہ پر ملاحظہ ہو

۷۸۶

۴۸۲	۴۹۷	۴۹۴	۴۸۳
۴۸۸	۴۹۰	۴۹۳	۴۸۷
۴۹۲	۴۸۶	۴۸۹	۴۹۱
۴۹۵	۴۸۴	۴۸۱	۴۹۶

ملازمت کی بحالی اور ملازمت کے لیے

اگر کوئی شخص بے کار ہو اور اُسے ملازمت نہ ملتی ہو تو اس نقش کو مشک وزعفران سے لکھ کر موم جامہ کرکے اپنے سیدھے بازو پر باندھے

اَللّٰهُ لَطِيْفٌۢ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

یہ نقش مکرم اس آیتِ مبارکہ کا ہے اور نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۳۲۱	۳۲۴	۳۲۸	۳۱۴
۳۲۷	۳۱۵	۳۲۰	۳۲۵
۳۱۶	۳۳۰	۳۲۲	۳۱۹
۳۲۳	۳۱۸	۳۱۷	۳۲۹

رشتوں کے کامیابی کیلئے

و دیگر ہر مقصد کے لیے

یہ نقش دونوں سَلٰامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِیْمٍ کے ہیں۔ ہر مقصد کے لیے نہایت مجرّب اور اکسیر ہیں۔ دونوں اکھٹے دیں۔ جس بچے یا بچی کا رشتہ نہ ہوتا ہو یہ نقش دونوں لکھ کر بچی یا بچہ اپنے پاس رکھے فوراً رشتہ ہوجائے گا۔

۷۸۶

۲۰۴	۲۰۷	۲۱۰	۱۹۷
۲۰۹	۱۹۸	۲۰۳	۲۰۸
۱۹۹	۲۱۲	۲۰۵	۲۰۲
۲۰۶	۲۰۱	۲۰۰	۲۱۱

۷۸۶

مِّنْ	قَوْلًا	سَلٰامٌ
رَّبٍّ	مِّنْ	قَوْلًا
رَّحِیْمٍ	رَّبٍّ	مِّنْ

برائے مسان

یہ معظم نقش ان بچوں کے لیے کہ جن کو سوکھے کی بیماری ہو بے حد مفید ہے اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں ڈالے انشاء اللہ تعالے بچہ موٹا تازہ ہوجائے گا۔ مجرّب ہے وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۱۱	۶۲۴۷	۱
۶۲۴۶	۲	۷	۱۲
۳	۶۲۴۹	۹	۶
۱۰	۵	۴	۶۲۴۸

برائے حُبّ

یہ نقش مبارک تسخیر خلائق کے لیے اکسیر ہے باوضو لکھ کر اور عطر لگا کر سیدھے بازو پر باندھے۔

۱۹۶	۱۹۹	۲۰۲	۱۸۹
۲۰۱	۱۹۰	۱۹۵	۲۰۰
۱۹۱	۲۰۴	۱۹۷	۱۹۴
۱۹۸	۱۹۳	۱۹۲	۲۰۳

Scanned with CamScanner

برائے حُبّ

یہ نقش مکرم اس آیتِ شریفہ کا ہے۔ یعنی یحبونھم کحب اللہ والذین امنوا اشد حبًا للّٰہ محبت و الفت کے لیے مجرب

۷۸۶

۳۷۳	۳۷۶	۳۷۹	۳۶۵
۳۷۸	۳۶۶	۳۷۲	۳۷۷
۳۶۷	۳۸۱	۳۷۴	۳۷۱
۳۷۵	۳۷۰	۳۶۸	۳۸۰

اُحب فلاں بن فلاں علیٰ حُب فلاں بن فلاں

برائے حُبّ

فَسَیَکۡفِیۡکَھُمُ اللّٰہُ وَھُوَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ؕ

نیچے لکھے دونوں مربع و مثلث نقوش اسی آیت کے ہیں جو شخص جابر حاکم سے خائف ہو باوضو لکھ کر اپنے پاس رکھے حاکم اس پر مہربان ہوگا۔ مجرب ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی کو لکھ کر کام میں لائے

نقوش اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

۷۸۶

نقش ۱

۱۹۹	۲۰۳	۲۰۶	۱۹۲
۲۰۵	۱۹۳	۱۹۸	۲۰۴
۱۹۴	۲۰۸	۲۰۱	۱۹۷
۲۰۲	۱۹۶	۱۹۵	۲۰۷

۷۸۶

نقش ۲

۲۶۸	۲۶۲	۲۷۰
۲۶۹	۲۶۷	۲۶۴
۲۶۳	۲۷۱	۲۶۶

دیگر

برائے حُبّ

اس عزیمت کو خوشبودار تیل میں تین دن تک برابر منگل، بدھ، جمعرات کو رات میں روشن کرے۔ جس کے لیے یہ عزیمت لکھے اس کے نیچے یہ عبارت لکھے۔ فلانۃ بنت فلاں علیٰ حب فلاں بن فلاں دل و جگر سوختہ حاضر آید۔ عزیمت یہ ہے۔

ع ع ع ع ع ع ددددل ال ال

لالا عجح عجح عجح الحبُّ فلانۃ بنت فلان

برائے حبّ مجرّب

یہ نقش محبت کے لیے عروج ماہ میں اتوار کو لکھے۔ ساعت شمس ہو آگ میں چولہے کے اندر دبایا جائے۔ ایک ہفتہ روزانہ ایک لکھ کر دبائے اس نقش کو بکری کے شانہ پر لکھا جائے۔ مجرّب ہے



برائے دشمنی

سورۃ تبّت کو ۲۷ مرتبہ دو قبروں کے بیچ میں بیٹھ کر پڑھے اور سات مقام کی مٹی پر دم کرے۔ وہ سات مقام یہ ہیں۔ ۱۔ گدھالوٹ ۲۔ پنجہ چیل۔ ۳۔ قبر۔ ۴۔ مسجد ویران۔ ۵۔ ویران کنواں ۶۔ چوراہا ۷۔ مرگھٹ۔ ۳ روز تک برابر زوال کے وقت پڑھنا چاہیئے کہ فاغ

ہونے کے بعد دشمن کے مکان میں اس مٹی کو ڈال دے مجرب ہے

بُغض و عداوت کے لیے

نمک کی سات کنکریاں لے کر دونوں شخصوں کے نام مع ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ یہ آیت ہر کنکری پر سات سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور آگ میں ڈالے، دونوں میں جدائی ہوجائے گی۔ یہ عمل شنبہ یا سہ شنبہ کو کرنا چاہیئے۔ آیت یہ ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝

برائے حبّ

یہ نقش بسنٹ (۲) در بسنت کا ہے (یعنی ۲۰ کا نقش ہے) حب کے واسطے مفید ہے۔ تجربہ شدہ ہے۔



الحب فلاں بن فلاں اَلْجَلِيْلُ علی حب فلاں بن فلاں

برائے دشمنی

اگر دو شخصوں میں عداوت ڈالنا چاہتے ہوں تو اس نقش کو لکھ کر اس جگہ دفن کیا جائے جہاں دونوں شخص ایک جا مع ہوں اور جن دونوں میں دشمنی ڈالنا چاہے ان دونوں کا نام معہ اُن کی والدہ کے نام بھی لکھنا چاہیئے۔

۲ ھ ۱۱ ۲ ۱۱ ۷ ۹ ۹ ۲ ۱۱ ۹ ۹ ۱۱

۱۲۲	وَ اَلْقَیْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ فلان بن فلان ۔ فلان بن فلان	۲۳۶

۱۱۵۸ = ۷۶۰۱۵

دیگر

اگر کوئی چاہے کہ دو شخصوں کے درمیان عداوت ہو جائے تو پہنا ہوا کپڑا لیوے اس کا نام معہ والدہ کے لکھ کر آگ میں ڈالے۔ مجرب ہے۔ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جائز حد تک یہ عمل کریں۔ کیونکہ گنہگار نہ ہو جائیں۔

نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں



۱۳۳۹۸۸۸۸۹۹۹۸۸۸۷

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

برائے زبان بندی

اس نقش کو بروز منگل یا ہفتہ کو لکھ کر دشمن کے مکان کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے دبا دو۔ مجرب ہے۔ آزمودہ ہے نقش یہ ہے۔

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ۱۶	وَعَلٰی سَمْعِهِمْ ۱۷	وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ ۱۸	غِشَاوَةٌ ۱۹
غِشَاوَةٌ ۱۹	وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ ۱۸	وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ ۱۷	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ۱۶
وَعَلٰی سَمْعِهِمْ ۱۷	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ۱۶	غِشَاوَةٌ ۱۹	وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ ۱۸
وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ ۱۸	غِشَاوَةٌ ۱۹	خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ۱۶	وَعَلٰی سَمْعِهِمْ ۱۷

مستم عقل و ہوش، جسم و گوش، ذہن زبان، دل و جان فلان بن فلان

نقش زبان بندی

جو شخص اس نقش کو ساعتِ زہرہ میں لکھ کر اپنے سیدھے بازو پر باندھے گا تو انشاءاللہ دشمنوں کی زبان بند رہے گی

وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۰۹	۲۰۴	۲۱۱
۲۱۰	۲۰۸	۲۰۶
۲۰۵	۲۱۲	۲۰۷

برائے ترقی رزق

بعد نماز صبح سات مرتبہ پڑھا جائے گا۔ بلا ناغہ

یا اللہُ ۔ یا سَمِیعُ ۔ یا عَلِیمُ ۔ یا سَرِیعُ الْحِسَابِ ۔ یا وَاسِعُ یا عَدْلُ ۔ یا عَلِیُّ ۔ یا عَظِیمُ ۔ یا مُتَعَالُ ۔ یا عَزِیزُ ۔ یا غَفُورُ یا بَاعِثُ ۔ یا فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ ۔ یا رَافِعُ ۔ یا مُعِیدُ ۔ یا مَانِعُ یا بَدِیعُ ۔ مجرّب ہے۔

برائے ترقی رزق

یہ عمل ترقی رزق کے لیے مجرب ہے فجر کی نماز کے بعد ۳۵ مرتبہ روزانہ پڑھے۔ اوّل و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

دیگر

بعد نماز جمعہ سو بار اس دعا کو پڑھے تو انشاءاللہ رزق میں ترقی ہوگی اور اگر روزانہ سو بار پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ مخلوق سے بے پروا رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے۔

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَاَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝

Scanned with CamScanner

برائے ادائیگی قرض

عشاء کی نماز پڑھ کر اُسی جگہ پر سورۂ نصر یعنی اِذَا جَآءَ نَصۡرُ اللّٰہِ کو ۴۱ بار ۴۱ روز تک برابر پڑھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ قرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ مجرب و اکسیر ہے۔ اوّل آخر گیارہ گیارہ بار دُرود شریف پڑھیں۔

برائے آسیب

یہ نقش آسیب زدہ کے واسطے مجرب اور مفید ہے لکھ کر عورت کی چوٹی میں باندھے اور اگر بچے کو نظر بد ہو جائے تو یہ نقش معظم گلے میں ڈال دیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم



برائے آسیب

اس فلیتے کو کورے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر مغرب یا عشاء کے بعد روشن کیا جائے اور مریض اس کو دیکھتا رہے۔ تین یا پانچ یا سات روز تک کیا جائے۔



ابوجہل	ابوجہل	ابوجہل	نمرود
نمرود	نمرود	فرعون	فرعون
فرعون	شداد	شداد	شداد
علیقا	طلیقا	ملیقا	ابلیس

علی
ہرچہ آسیب درد جو دایں فلاں بنت فلاں خاک گردد
گودہ

دیگر (برائے آسیب)

اس تعویذ کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالے بفضلہ تعالےٰ فائدہ کثیر ہوگا

۷۸۶

۷۸۲۴	۷۸۱۷	۷۸۲۲
۷۸۱۹	۷۸۲۱	۷۸۲۳
۷۸۲۰	۷۸۲۵	۷۸۱۸

Scanned with CamScanner

برائے آسیب

اس فتیلہ کو لکھ کر نیلا ڈورا لپیٹے اور کوئلوں کی آگ پر رکھ کر آسیب زدہ کے نتھنوں میں دھواں دے، اور مریض کا نام معہ اس کی ماں کے فتیلہ کی پشت پر لکھے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

فرعون	ابلیس ۱۴	ہامان ۱۱	۸ ۱۱۳
ابلیس ۱۲	ہامان ۷	۲ ۱۱۳	۱۳ فرعون
ہامان ۶	۹ ۱۱۳	فرعون ۱۶	ابلیس ۳
۱۰ ۱۱۳	۴ فرعون	ابلیس ۵	ہامان ۱۰
فرعون عـــ العجل	ابلیس وـــ الساعۃ	ہامان وـــ الوحا الوحا	۱۱۳ دـــ الوحا

دیگر (برائے آسیب)

اس کا فتیلہ بنا کر ناک میں دھونی دیں۔

ابلیس ۱ - فرعون ۲ - سکراؤ ۳ - ہامان ۴ - ججان ۵ - کاو بلعم ۶ الله العظیم

۱ع۶ ۱۱ع۶ ۱۱۶ع اع لذا ۱۰ع۱۰۹ ۱۰۹ع۱۲

برائے آدھے سر کا درد

موم جامہ کر کے جس طرف درد ہو۔ اس طرف باندھا جائے یا ٹوپی میں رکھ لیا جائے۔ یہ نقش اس طرف باندھا یا رکھا جائے گا۔ جس طرف آدھے سر میں درد ہو۔

۷۸۶

۵۱۱۵	۵۱۱۵	۵۱۱۵
۵۱۱۵	۵۱۱۵	۵۱۱۵
۵۱۱۵	۵۱۱۵	۵۱۱۵

برائے درد بدن

جہاں درد ہو موم جامہ کر کے اس جگہ باندھا جائے گا مجرب ہے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

یَا رَبُّ | یَا شَافِی (۸۷۷۷۸ / ۹۳۳) | یَا رَحِیمُ

یَا کَرِیمُ

برائے درد

موم جامہ کرکے سر میں باندھا جائے گا مجرب ہے وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۷ یا محمد ۷	
یا دافع البلیات	

برائے جملہ امراض اور جمیع حاجات، اور تمام بلا ومصیبت

اس نقش معظم کو باوضو زعفران وگلاب سے لکھ کر بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ جملہ امراض اور جمیع حاجات اور تمام بلا ومصیبت کے لیے مجرب المجرب ہے۔

۷۸۶

۱۹۶	۱۹۹	۲۰۳	۱۸۹
۲۰۱	۱۹۰	۱۹۵	۲۰۰
۱۹۱	۲۰۴	۱۹۷	۱۹۴
۱۹۸	۱۹۳	۱۹۲	۲۰۳

برائے درد

جس کے پستان میں درد ہو اس نقش مکرم کو لکھ کر پلائیں اور ایک لکھ کر مریضہ کے گلے میں باندھیں انشاء اللہ تعالیٰ شفایاب ہوگی۔ سات روز تک برابر پلانا چاہیئے اور اس پانی کو سینے پر بھی ملنا چاہیئے۔ اس امر میں اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

۸	۱۲	۱۵	۱
۱۴	۲	۷	۱۳
۳	۱۷	۱۰	۶
۱۱	۵	۴	۱۶

دیگر

جس کو درد گلو کی شکایت ہو یا ورم ہو تو اس جگہ پر یہ نقش لکھ کر باندھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ کلی صحت ہوگی۔ نقش یہ ہے۔

موطیل	وطل
وطل	موطیل

برائے آسانی پیدائش

اس نقش کو لکھ کر دردِ زہ کی حالت میں عورت کی داہنی ران میں پاجامہ کے اندر باندھے۔

انشاء اللہ تعالٰے آسانی سے بچہ پیدا ہوگا اور اگر کسی جانور کو تکلیف ہو تو اس کے سینگ میں باندھے، دونوں کے لیے بے حد مجرّب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۳۱	۲۶	۳۳
۳۲	۳۰	۲۸
۲۷	۳۴	۲۹

دیگر

کوری ٹھیکری پر نقش لکھ کر ہاتھ کے نیچے دبا کر توڑ دے اس عمل سے بھی بچہ بہت جلد پیدا ہوگا نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۴	۳	۸
۹	۵	۱
۲	۷	۶

برائے آسانی پیدائش

جس عورت کے بچہ پیدا ہونے کے وقت سخت تکلیف ہو اور درد کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کے واسطے یہ لکھ پیشانی پر باندھے۔ انشاء اللہ تعالٰے بچہ آسانی سے پیدا ہوگا وہ یہ ہے۔

اَلشَّكُوْرُ الصَّبُوْرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

بچّہ کے رونے کیلئے

جو بچہ روتا ہو اس قدر کہ گھر میں سب پریشان ہوں تو اس نقش کو لکھ کر بچے کے تکیے میں سی کر سر کے نیچے رکھے انشاء اللہ تعالیٰ رونا بند ہوجائے گا۔ جب تک سر کے نیچے یہ نقش رہے گا۔

۷۸۶

ع	ع	ل	ص
و	۱۷	۱۷	۱۳
ع	۷	۱۶	۱۳
۱۵	۲۴	۲	۱

بچہ کا رونا اور ڈرنا

جو بچہ روتا ہو اور ڈرتا ہو تو اس نقش مکرم کو لکھ کر موم جامہ کرکے بچے کے گلے میں ڈالے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۶۱۵۷۱	۲۶۱۵۷۴	۲۶۱۵۷۷	۲۶۱۵۶۴
۲۶۱۵۷۶	۲۶۱۵۶۵	۲۶۱۵۷۰	۲۶۱۵۷۵
۲۶۱۵۶۶	۲۶۱۵۷۹	۲۶۱۵۷۲	۲۶۱۵۶۹
۲۶۱۵۷۳	۲۶۱۵۶۸	۲۶۱۵۶۷	۲۶۱۵۷۸

دودھ بڑھانے کیلئے

جس عورت کو دودھ کم ہو تو اس نقش مکرم کو لکھ کر موم جامہ کرکے عورت کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ دودھ بڑھ جائے گا نقش یہ ہے۔

۱۸	۱۱	۱۶
۱۳	۱۵	۱۷
۱۴	۱۰	۱۲

عورت کے مخصوص ایام

جس عورت کو خون حیض و نفاس بشدت جاری ہو جاوے اس نقش کو لکھ کر عورت کی دائیں ران میں باندھے۔ خدا کے فضل سے خون بند ہو جائے گا وہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۰۲	۲۰۲	۷۵
۱۵	۴۰۱	۴۵۲
۵۲۷	یاقابض	۳۷۳

دیگر

جس عورت کی ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو ان آیات کو لکھ کر کمر میں باندھیں۔ اس صورت میں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے۔

آیات یہ ہیں۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ وَجَعَلۡنَا فِیۡهَا جَنّٰتٍ مِّنۡ نَّخِیۡلٍ وَّاَعۡنَابٍ وَّفَجَّرۡنَا فِیۡهَا مِنَ الۡعُیُوۡنِ لِیَاۡکُلُوۡا

مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۝

II :- اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔

بخار کے لیے

جس شخص کو بخار آتا ہو۔ اس آیت مبارکہ کو لکھ کر بخار والے کے گلے میں باندھیں۔ مفید ہے۔

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

فلاں بن فلاں کا بخار جاتا رہے۔ فلاں بن فلاں کی جگہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا چاہیئے۔

سردی کا بخار

جس شخص کو بخار جاڑے (یعنی سردی) کے ساتھ آتا ہو اس مریض کے لیے سات مرتبہ اس آیتِ مبارکہ کو پانی پر دم کرکے پلائے

انشاء اللہ تعالیٰ جاڑے سے چڑھنے والا بخار جاتا رہے گا۔ اور مریض اچھا ہو جائے گا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے اس عمل کو تین روز تک کیا جائے۔ بخار سے ایک یا دو گھنٹہ قبل پانی پر دم کرکے مریض کو پلائے۔

فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا ۚ

دل کی گھبراہٹ کیلئے

جس شخص کو اختلاج قلب یا دل کی دھڑکن یا دل کے درد کی شکایت ہو تو تین بار آیۃ الکرسی پاک صاف برتن پر لکھیں پھر صاف پانی سے دھو کر پلائیں اور پیتے وقت یوں کہیں کہ میں نے شفا کی نیت کی اور جو مرض ہو اس کا نام لے انشاء اللہ تعالیٰ مریض شفا پائے گا اس کے علاوہ درد جگر کی شکایت ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہو اس قسم کے مریض کو بھی تین بار آیۃ الکرسی پاک وصاف برتن پر لکھیں پھر صاف پانی سے دھو کر پلائیں۔

ڈراؤنے خواب آنا

جو شخص مرد، عورت یا بچہ سوتے سوتے ڈراؤنے خواب دیکھ کر ڈرتا ہو یا چونک جاتا ہو اس کے لیے اس نقش کو لکھ کر موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے۔

انشاء اللہ تعالٰے پھر وہ سوتے ہوئے کبھی نہیں ڈرے گا نقش یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَا اَللّٰہُ	یَا رَحْمٰنُ	یَا رَحِیْمُ
یَا مَالِكُ	یَا قُدُّوْسُ	یَا اَحَدُ
یَا مُؤْمِنُ	یَا مُهَيْمِنُ	یَا سَلَامُ

دیگر

خواب میں ڈرنا، رونا، نیند کے اچاٹ ہو جانے کے دفعیہ کے لیے ایک کاغذ پر زعفران سے لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالے نہایت مجرب ہے۔ آیتیں اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

مرگی والا (علاج)

جس شخص کو مرگی کی شکایت ہو اس کو چاہیئے کہ عقر قرحا کوٹ کر اور کپڑے میں چھان کر شہد خالص ملا کر مرگی والے مریض کو چٹائے۔

عقر قرحا ۶ ماشہ اور شہد خالص ایک تولہ لیا جائے۔

انشاء اللہ تعالٰے مریض شفایاب ہوگا۔

دیگر

جس کسی کو مرگی کے دوروں کی شکایت ہو ان کو چاہیئے کہ عود صلیب کی دو چھوٹی چھوٹی ثابت لکڑیاں لے کر ان کے بیچ میں سوراخ کر کے کہ وہ لکڑیاں پھٹیں نہیں۔ ان دونوں کے بیچ میں ڈورا ڈال کر مریض کے گلے میں ڈالے اور لکڑیاں پر کپڑا نہ چڑھائے

انشاء اللہ تعالٰے مریض شفایاب ہوگا۔

Scanned with CamScanner

مرگی والے کیلئے

جس شخص کو مرگی کی شکایت ہو تو اس کو چاہیئے کہ ہفتہ کے دن علی الصبح سیاہ کبوتر کہ اس کی آنکھ اور ناخن اور زبان کالی ہو۔ ذبح کرے اور اس کے خون سے تانبے کی تختی پر ان دونوں نقشوں کو لکھے ایک نقش کو تختی کے ایک طرف اور دوسرے نقش کو تختی کے دوسری طرف یعنی پشت پر لکھے اور ان کو کندہ کرا کے یعنی کھودنے والے سے کھدوا کر اور اس تانبے کی تختی میں اوپر کی طرف دو کنڈے ڈورا ڈالنے کے لیے لگوا کر اس تختی کو مرگی والے مریض کے گلے میں ڈالے۔

انشاء اللہ تعالے مریض شفایاب ہوگا۔

۷۸۶

۵۴۴	۵۴۷	۵۵۱	۵۳۷
۵۵۰	۵۳۸	۵۴۳	۵۴۸
۵۳۹	۵۵۳	۵۴۵	۵۴۲
۵۴۶	۵۴۱	۵۴۰	۵۵۲

(تختی کے اوپر والا نقش)

۷۸۶

۱۱۸۰	۱۱۸۳	۱۱۸۶	۱۱۷۳
۱۱۸۵	۱۱۷۴	۱۱۷۹	۱۱۸۴
۱۱۷۵	۱۱۸۸	۱۱۸۱	۱۱۷۸
۱۱۸۲	۱۱۷۷	۱۱۷۶	۱۱۸۷

(تختی کی پشت والا نقش)

چیچک کے لیے

جس بچہ یا بڑے کو بخار آرہا ہو اور چیچک کی وبا کا دور ہو اور اس کو یہ ڈر ہو کہ کہیں میرے نہ نکل آئے تو اس کو چاہیئے کہ نیلے رنگ کے سوت کے اکیس تارے کر نو گرہ لگائے اور ہر گرہ پر الحمد شریف ایک بار پڑھے اور گلے میں باندھے۔

انشاء اللہ تعالے چیچک سے محفوظ رہے گا۔

Scanned with CamScanner

برائے چیچک

اگر مریض کو بخار ہوتا ہو اور چیچک نکلنے کا اندیشہ ہو تو اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔ بخار بھی اتر جائے گا اور چیچک سے بھی محفوظ رہے گا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ	غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ	اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ	وَاِیَّاکَ
صِرَاطَ الَّذِیْنَ	اِیَّاکَ نَعْبُدُ	رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ	اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ
یَوْمِ الدِّیْنِ	نَسْتَعِیْنُ	وَلَا الضَّآلِّیْنَ	اَلرَّحْمٰنِ
عَلَیْہِمْ	اَلرَّحِیْمِ	مٰلِکِ	اِھْدِنَا

آنکھ نہیں دُکھے گی

لفظِ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم) پڑھ کر اپنے انگوٹھوں پر پھونک مار کر آنکھوں پر لگائیں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گے

مکان کی حفاظت کیلئے

جس مکان میں جنّ و شیاطین یا کسی قسم کی ارواح خبیثہ کا اثر ہو تو اس کو چاہیئے کہ لوہے کی چار کیلیں ٹوپی دار لے کر ان میں سے ہر کیل پر ۲۵، ۲۵ مرتبہ آیت مبارکہ پڑھ کر دم کرے اور ایک ایک کیل چاروں گوشوں میں گاڑ دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کا اثر جاتا رہے گا۔

وہ آیت مبارک یہ ہے۔

اِنَّھُمْ یَکِیْدُوْنَ کَیْدًا ۝ وَّاَکِیْدُ کَیْدًا ۝ فَمَھِّلِ الْکٰفِرِیْنَ اَمْھِلْھُمْ رُوَیْدًا ۝

برائے حافظہ

جس شخص کو قرآن مجید نہ حفظ ہوتا ہو تو سونے وقت عشاء کی نماز کے بعد ہر رات سو دفعہ پوری الحمد شریف پڑھا کرے انشاء اللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ مجرّب ہے۔

دکان کی ترقی کیلئے

یہ نقش لکھ کر اپنی دکان میں لٹکا دیں۔ دکان خوب چلے گی۔ مجرّب ہے۔

یَا اَللّٰهُ	یَا رَحْمٰنُ	یَا اَلرَّحِیْمُ
یَا مَالِكُ	یَا رَزَّاقُ	یَا قَادِرُ
یَا رَزَّاقُ	قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ	یَا رَزَّاقُ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ	یَا رَزَّاقُ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
یَا رَزَّاقُ	اَللّٰهُ الصَّمَدُ	یَا رَزَّاقُ

دیگر

یہ نقش بھی دکان کی خیر و برکت کے لیے ہے۔ دشمنوں کی نظرِ بد سے محفوظ رہے گی۔

۷۸۶

فَاسْتَبْشِرُوْا ۱۵۰	بِبَیْعِكُمُ ۷۴۱	اَلَّذِیْ ۷۴۱	بَایَعْتُمْ بِهٖ ۵۳۰
۷۴۲	۵۲۹	۱۵۱	۷۴۳
۵۲۸	۷۳۹	۷۴۶	۱۵۲
۷۴۵	۱۵۳	۵۲۷	۷۴۰

ہر قسم کی جائز حاجات کیلئے

اس نقش کو لکھ کر بازو پر باندھے۔ تمام حاجات پوری ہوں۔ نقش یہ ہے۔

یا جبرائیلؑ ۷۸۶ یا عزرائیلؑ

۱۶	۱ ۹ ۴۸ ۱۲	۱۸۲۰
۳۶	۳۰ ۹ ۲۴ ۱۲	۱۱۲
۱۳	یَا بَاسِطُ اجب یا جبرئیلؑ	۴۲۰

یا میکائیلؑ — یا اسرافیلؑ

(اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ)

برائے درد

عمل سورۃ الفاتحہ شریف: اگر بدن میں درد ہوتا ہے طشتری میں مع بسم اللہ کے سورۂ فاتحہ لکھے۔ بعدہٗ تل کا تیل طشتری میں ڈالے تل کے تیل پر ستر بار سورۃ فاتحہ پڑھے اس کے بعد تیل کو شیشی میں بھر کر محفوظ رکھے اور درد کی جگہ پر مالش کرے انشاءاللہ تعالیٰ بحکم

خدا درد دفع ہو جائے گا۔ مجرّب ہے۔

سخت مشکل اور لاعلاج بیماری کیلئے

اگر کسی شخص کو کوئی سخت حاجت درپیش ہو اور وہ شخص سخت پریشان ہو تو اسے چاہیئے کہ اس نقش مبارک کو لکھ کر اپنے سامنے رکھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور ۷۸۶ مرتبہ بسم شریف پڑھ کر اپنے دلی مقصد کے لیے دعا مانگے تو درگاہ قاضی الحاجات میں قبول منظور ہوگی۔ بعد میں یہ تعویذ موم جامہ کرکے اپنے پاس رکھے انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی اور بیماری کو شفا ہوگی گھول کر پلا دیویں اس نقش کے بہت فضائل ہیں۔ ہر مقصد کے استعمال کریں۔

مجرب المجرب ہے نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

نقش نمبر ۱

الرحیم ۸	الرحمٰن ۱۱	اللہ ۱۴	بسم ۱
بسم ۱۳	اللہ ۲	الرحمٰن ۷	الرحیم ۱۲
الرحمٰن ۳	الرحیم ۱۶	بسم ۹	اللہ ۶
اللہ ۱۰	بسم ۵	الرحیم ۴	الرحمٰن ۱۵

۷۸۶

۱۹۶	۱۹۹	۲۰۲	۱۸۹
۲۰۱	۱۹۰	۱۹۵	۲۰۰
۱۹۱	۲۰۴	۱۹۷	۱۹۴
۱۹۸	۱۹۳	۱۹۲	۲۰۳

برائے پیچش

ہر کام کے واسطے مجرب ہے مریض کو اگر پیچش ہو تو اس کو تین نقش روزانہ لکھ کر پلائے۔ کاغذ کو بھی نگل جائے۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

یَا مُنْعِمُ

ہر روز دو سو گیارہ بار پڑھا جائے گا۔ مجرب ہے اس کے اوّل آخر ۱۱، ۱۱ بار درود شریف پڑھنا بہت ضروری ہے دستِ غیب سے مراد ہے جو کام شروع کیا جائے گا قدرتی اسباب پیدا ہوں گے۔

Scanned with CamScanner

برائے حاجت

یہ دونوں نقش مربع و مثلث یَا قَیُّوْمُ کے ہیں۔ ہر حاجت کے لیے کارآمد ہیں۔ مشک و زعفران سے باوضو لکھ کر بازو پر باندھے مثلث کام میں لائے یا مربع۔ دونوں میں سے کوئی سا لے کر تجربہ کرے۔ مفید ثابت ہوگا۔ وہ دونوں نقش یہ ہیں۔

۷۸۶

۳۸	۴۲	۴۵	۳۱
۴۴	۳۲	۳۷	۴۳
۳۳	۴۷	۴۰	۳۶
۴۱	۳۵	۳۴	۴۶

یہ نقش مربع ہے

۷۸۶

۵۳	۴۸	۵۵
۵۴	۵۲	۵۰
۴۹	۵۶	۵۱

یہ نقش مثلث ہے

برائے سختی و دشواری

یہ نقش معظم آیت کریمہ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ط

کا ہے ہر سختی و دشواری کے لیے اکسیر ہے نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۵۹۳	۵۹۶	۵۹۹	۵۸۶
۵۹۸	۵۸۷	۵۹۲	۵۹۷
۵۸۸	۶۰۱	۵۹۴	۵۹۱
۵۹۵	۵۹۰	۵۸۹	۶۰۰

برائے احتلام

اگر کسی شخص کو بہت زیادہ احتلام ہوتا ہو تو اس کو چاہیئے کہ سوتے وقت اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے یَا عُمَرُ لکھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہرگز احتلام نہ ہوگا۔

Scanned with CamScanner

بچوں کی دھونی کیلئے

جو بچے روتے بہت ہوں اور ان کو کسی قسم کی تکلیف کان کا درد یا مونڈھا اترنا وغیرہ نہ ہو اگر نظر لگ گئی ہو تو اس کا فتیلہ بنا کر اس کی دھونی بچے کو دی جائے انشاء اللہ تعالیٰ نظر کا اثر بھی جاتا رہے گا اور رونا بھی بند ہو جائے گا۔

۷ ۳ ۹ ۸ ۲ طح

برائے حاجت

یہ نقش مبارک یَا حَیُّ کا ہے۔ ہر حاجت کے لیے مجرّب ہے باوضو لکھ کر بازو پر باندھے، انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد کامیاب ہو گا

یَا حَیُّ

۹	۲	۷
۴	۶	۸
۵	۱۰	۳

عمل برائے رشتہ

مکھ موہنی برماں دی جگا دے سر کو کاں۔ اکا سی نتھا کی چند سے چاہے تھاک پلا دد پاؤں تلے پڑ جا۔ آسو کی ہمیں متھیں ایک کھاٹ بیٹھنا لاکھ موہنی ٹھاری کرے سلام۔ جاری۔ جاری۔ جاری۔ جاری روبرو چراغ جس میں کہ تیل چنبیلی یا خالص گھی جس میں تھوڑی سی کچی کھانڈ ڈال لی جائے اور چراغ روشن کرے۔ مع دھونی لوبان عطر موتیا قسم اول تعداد ۱۱۰۰ مرتبہ بخواند۔ اس کا دن نوچندی ہفتہ یا اتوار کو کرے حرام کے پیسے نہ کرے، ورنہ پچھتائے گا۔ عشاء کے بعد کرے اور بعد میں اس لڑکی کا نام اور اس کی ماں کا نام یا والدین راضی نہ ہوں تو ان دونوں کا نام لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہو گا۔

برائے رعشہ بدن

جو شخص رعشہ کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیئے کہ نقش کو

Scanned with CamScanner

لکھ کر اکثر و بیشتر وقتاً فوقتاً دیکھا کرے۔ انشاء اللہ تعالےٰ اس کے بدن سے رعشہ دور ہو جائے گا اور صحت ہوگی۔ مجرب ہے اس نقش کو مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھے۔

وہ نقش مکرم یہ ہے۔

۷۸۶

۳۲۴	۳۲۸	۳۳۱	۳۱۷
۳۳۰	۳۱۸	۳۲۳	۳۲۹
۳۱۹	۳۳۳	۳۲۶	۳۲۲
۳۲۷	۳۲۱	۳۲۰	۳۳۲

عمل برائے حصول حسن خاتمہ

جو شخص ہمیشہ دو رکعت اس طریقے سے پڑھے گا۔ یقینی اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ان دو رکعت کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نماز پڑھے دونوں رکعتوں میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ قدر و سورۂ اخلاص اور سورۂ فلق اور سورۂ ناس ایک ایک مرتبہ پڑھے اور چاروں سجدوں میں ۳۰۳ مرتبہ اس دعا کو پڑھے۔

دعا اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَوْدِعُكَ دِیْنِیْ وَاِیْمَانِیْ وَ احْفَظْهُمَا عَلَیَّ فِیْ حَیَاتِیْ وَعِنْدَ وَفَاتِیْ وَبَعْدَ مَمَاتِیْ۔

برائے دفع بلغم

جس شخص کو بلغمی مرض ہو، سات کنکریاں لاہوری نمک کی لے اور ہر کنکری پر سات مرتبہ آیۃ الکرسی دم کرے اور ہر روز ایک کنکری نہار منہ کھائے۔

ہر کام کیلئے

جس شخص کو کسی قسم کی پریشانی درپیش ہو۔ مقدمات، کاروبار وغیرہ تو مرد اپنے دائیں بازو پر اور عورت اپنے بائیں بازو پر باندھے اس نقش کو عروج ماہ مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھے۔

انشاء اللہ تعالےٰ ہر قسم کی پریشانی کے لیے تیر بہدف ثابت ہوگا۔ مجرب المجرب ہے۔

نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمادیں

۷۸۶

۵۹۱۵	۵۹۰۸	۵۹۱۳
۵۹۱۰	۵۹۱۲	۵۹۱۴
۵۹۱۱	۵۹۱۶	۵۹۰۹

(کل اعداد ۱۷۷۳۶)

عورت کا بانجھ پن

جس عورت کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوتا ہو اس کے لیے یہ نقش مشتری یا زہرہ کی ساعت میں لکھ کر موم جامہ کر کے عورت کی ناف پر باندھے تاکہ رحم پر پڑا رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس عورت کے بچہ پیدا ہوگا۔ مجرب ہے۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

بدوح	بدوح	بدوح	ار
بدوح	بدوح	بدوح	ار
بدوح	بدوح	بدوح	ار
بدوح	بدوح	بدوح	ار

خاتمہ بالخیر

حضرت حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو ایک ہزار مرتبہ خواب میں دیکھا ہے اور ہر مرتبہ میں نے خداوند تعالیٰ سے حسن خاتمہ کے متعلق دریافت کیا تو حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد اس دعا کو چالیس یا اکتالیس ۴۱ مرتبہ پڑھا کرے۔ وہ دعا یہ ہے۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ وَيَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَسْئَلُكَ اَنْ يُّحْيِيَ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا اَسَرْمَدًا يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ۔

زہریلے جانور کا اثر ضائع کرنا

جو شخص چاہے کہ اُسے کوئی زہریلا جانور نہ کاٹے یا سانپ یا بچھو سے محفوظ رہنا چاہیئے تو اس کو لازم ہے کہ اس آیت شریفہ کو سات مرتبہ صبح اور سات مرتبہ شام روزانہ بلاناغہ پڑھ لیا کرے انشاء اللہ ہر قسم کے زہریلے جانور سے محفوظ رہے گا۔ آیت مبارکہ یہ

Scanned with CamScanner

ہے۔

سَلٰمٌ عَلٰی نُوۡحٍ فِی الۡعٰلَمِیۡنَ ۝

(دعا واسطے دفع پھوڑے اور دنبل کے)

اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ کر بنڈول مٹی پر دم کرے اور اس مٹی کو باریک پیس کر ہتھیلی پر رکھ کر انگلی پر لعاب دہن لگا کر اس مٹی کو دنبل پہ لگا دے اسی طرح کئی روز تک لگا دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ شفا ہو جاوے گی۔ مجرب ہے۔

بِسۡمِ اللّٰهِ تُرۡبَةُ اَرۡضِنَا بِرِيۡقِ بَعۡضِنَا يَشۡفِيۡ سَقِيۡمَنَا بِاِذۡنِ رَبِّنَا ۝

تعویذ واسطے غیر اہل اسلام

چاہے ہنود ہو یا نصرانی یا یہودی یا آتش پرست، کل بیماریوں کے واسطے اس میں شفا ہے

اَلۡاِسۡلَامُ حَقٌّ وَّالۡكُفۡرُ بَاطِلٌ اَلۡاِسۡلَامُ نُوۡرٌ وَّالۡكُفۡرُ ظُلۡمَةٌ

شیر یا کتا، درندہ جانور کے حملہ کے لیے

جس شخص کو راستے میں یا کسی جگہ یہ ڈر ہو کہ کتا یا شیر یا کوئی کسی اور جانور کے حملے کا خطرہ ہو تو اس کو چاہیے کہ فوراً اس آیت شریفہ کو پڑھنا شروع کر دے تو کتا یا شیر شور مچانے اور حملہ کرنے سے باز رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَكَلۡبُهُمۡ بَاسِطٌ ذِرَاعَيۡهِ ۝

نافرمان کیلئے

اگر کسی شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو اور وہ انہیں تابعدار کرنا چاہے وہ اکیس روز تک عشاء کی نماز کے بعد ۵۰۵ مرتبہ اس آیت کو پڑھے۔ آیت شریفہ یہ ہے۔

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡيُنٍ وَّاجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِيۡنَ اِمَامًا ۝

Scanned with CamScanner

برائے تپ

اگر کسی کو باری کا تپ ہو یا سردی سے بخار ہوتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں باندھے۔ انشاء اللہ بخار جاتا رہے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ
یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ
یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ
یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ	یاحافظ

برائے درد مثانہ

اگر کسی کو مثانہ میں درد ہو یا پیشاب بند ہو جائے تو اس نقش کو لکھ کر پلا دیویں۔ فوراً آفاقہ ہو گا۔ نقش یہ ہے

۷۸۶

۲	۷	۶
۹	۵	۱
۴	۳	۸

کثرتِ حیض

جس عورت کو کثرتِ حیض کی شکایت ہو جائے۔ اور بند نہ ہوتا ہو تو اس نقش کو لکھ کر عورت کی ران میں باندھے۔ انشاء اللہ تعالےٰ خدا کے حکم سے خون بند ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۲۲۰	۲۰۲	۷۵
۱۵	۳۰۱	۳۵۲
۵۲۷	یاقابض	۳۷۶

برائے دردِ زہ

جس عورت کو دردِ زہ کی بہت شدت ہو اور لڑکا نہ ہوتا ہو اس نقش کو عورت کی ران میں باندھے بہت جلد لڑکا پیدا ہو گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۱	۱۴	۱۱	۸
۱۲	۷	۲	۱۳
۶	۹	۱۶	۳
۱۵	۴	۵	۱۰

Scanned with CamScanner

برائے درد دل

اگر کسی شخص کو دل کی تکلیف ہو تو یہ دو نقش لکھے ایک گلے میں ڈالے اور دوسرا سات روز پانی میں ڈال دے اور پیئے

گلے کا تعویذ

۷۸۶

لاحول	لاحول	الاباللہ	العلی العظیم
العلی العظیم	الاباللہ	ولاقوۃ	ولاقوۃ
ولاقوۃ	لاحول	العلی العظیم	الاباللہ
الاباللہ	العلی العظیم	لاحول	ولاقوۃ

پینے کا تعویذ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قل	هو	الله	احد	الله	الصمد	لم	یلد
هو	الله	احد	الله	الصمد	لم	یلد	ولم
الله	احد	الله	الصمد	لم	یلد	ولم	یولد
احد	الله	الصمد	لم	یلد	ولم	یولد	ولم
الله	الصمد	لم	یلد	ولم	یولد	ولم	یکن
الصمد	لم	یلد	ولم	یولد	ولم	یکن	لہ
لم	یلد	ولم	یولد	ولم	یکن	لہ	کفوًا
یلد	ولم	یولد	ولم	یکن	لہ	کفوًا	احد

بلیّات سے محفوظ

جو کوئی اس نقش کو ماہ محرم میں چاندی کی تختی پر کھدوا کے لڑکے کے گلے میں ڈالے لڑکا بہت کم روئے اور سب بلیّات سے محفوظ رہے گا۔ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

ح	ف	ی	ظ
ظ	ی	ف	ح
ف	ح	ظ	ے
ی	ط	ی	ف

بدخوابی کیلئے

اس نقش کو لکھ کر گلے میں ڈالے بدخوابی سے محفوظ رہے گا

۷۸۶

۴۷۲۵	۴۷۱۸	۴۷۲۳
۴۷۲۰	۴۷۲۲	۴۷۲۴
۴۷۲۱	۴۷۲۶	۴۷۱۹

Scanned with CamScanner

نظر بد سے محفوظ

ہر قسم کی نظر بد اور وسوسوں سے محفوظ رہنے کے لیے اس نقش کو لکھ کر گلے میں ڈالیں۔ انشاء اللہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ مجرّب ہے

۷۸۶



جلد واپس آوے

اتوار کے دن لکھ کر چرخے پر باندھے اور سات مرتبہ سات دن الٹا گھمادے جلد واپس آوے۔



بھاگے ہوئے کیلئے

جس شخص کا غلام یا جانور بھاگ گیا ہو تو اس نقش کو لکھ کر درخت میں اپنے ہاتھ سے لٹکا دے جس وقت ہوا سے ہلے گا بھاگا ہوا جلد آوے گا نقش یہ ہے



برائے حفاظت

جو کوئی شخص اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا۔ وہ شخص تلوار اور نیزہ بندوق وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ خاص کر دشمن یا دشمنی والا اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ ہرگز اثر نہ ہوگا۔ نقش اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں۔

۷۸۶ ۷۸۶



برے خواب کیلئے

خواب بندی کے لیے اس نقش کو لکھ کر جہاں پر وہ شخص سوتا ہو وہاں دفن کر دیں۔ یہ نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۶	۳	۲
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۴
۴	۲	۸	۶

بستم خواب فلاں بن فلاں

دیگر

خواب بندی کے لیے اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھے

نقش یہ ہے۔

۷۸۶

۸	۲	۳	۱
۲	م	لو	۲
۵	۶	۴	۱
۵	۱	عص	م

بستم خواب فلاں بن فلاں

زبان بندی کیلئے

زبان بندی کیلئے اس نقش کو لکھ کر کسی بھاری چیز کے نیچے رکھ دیں۔ بڑا مجرب ہے۔

۷۸۶

ص ھ	۱۳ لا	۱۱ م	۴۷
و ۱۳	د ۳	ص ۶	م ۱۳
ح ۲	ئ ۱۰	فلان	ط
۶۱۵	ع ۸	۱۱	ن ۹

بستم زبان فلان بن فلان

تنگ دستی کا فوری علاج

جو کوئی تنگئ معیشت میں گرفتار ہو اور مفلسی و تنگدستی سے لاچار ہو اس کو چاہیئے کہ سورۂ مزمل شریف بعد ادائے زکوٰۃ اکتالیس مرتبہ روز بعد نماز عصر دریا کے کنارے یا کسی حوض کے کنارے بیٹھ کر پڑھا کرے انشاء اللہ تعالےٰ مالدار ہوجائے گا۔

جس وقت اقوم قیلا پر پہنچے گا تین مرتبہ تکرار کرے اور اپنے مطلب کا اظہار کرے۔ درود شریف اول آخر گیارہ گیارہ دفعہ پڑھے۔

اگر عصر کی نماز کے وقت اس عمل کو پڑھنے کی فرصت نہ ہو تو بعد نماز عشاء یا تہجد کے وقت پڑھ لے۔

جو کوئی تنگ دستی میں ہو تنہائی گوشہ میں بیٹھ کر اور اگربتی سلگا کر مندرجہ ذیل اسمائے حسنہ کا ورد ۱۲ ہزار مرتبہ کرے۔

یا قَوِیُّ۔ یا غَنِیُّ۔ یا عَلِیُّ۔ یا وَلِیُّ

اس مقصد کے لیے یہ اسم بھی اکسیر اعظم ہے ہر روز چار سو چوالیس بار چالیس دن طہارت کامل کے ساتھ پڑھے۔

یَا وَھَّابُ - یَا وَھَّابُ

اور چودہ نقش لکھ کر آٹے کی گولیوں میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا کرے یہ چلہ چاند کی چودھویں تاریخ سے شروع کرے اور بلاناغہ پڑھا کرے۔ ناغہ نہیں ہونا چاہیئے۔

نقش یَا وَھَّابُ - یہ ہے۔

۷۸۶

ب	ا	ھ	و
و	ھ	ا	ب
ب	ا	و	ھ
ھ	و	ب	ا

میاں بیوی کی محبت کیلئے

اگر کوئی عورت چاہے کہ اپنے مالک کو تابعدار بنائے تو چاند کے شروع کی تاریخوں میں جمعہ مبارک کے دن بعد غسل کرکے اس نقش کو زعفران سے لکھے

فلاں بن فلاں کی جگہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور اپنے

Scanned with CamScanner

میاں کا نام اور ان کے والدہ کا نام لکھے ۔ اور ان کو پلائے ۔
انشاء اللہ وہ تابعدار ہو جائے گا۔ نقش یہ ہے ۔

الہی الہی بحرمت جبرائیل ومیکائیل
اللھم اللھم اللھم بحرمت میکائیل وجبرائیل
الہی الہی بحرمت اسرافیل وعزرائیل
اللھم اللھم اللھم بحرمت اسرافیل وعزرائیل
بحرمت جمیع انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اپنا نام اور والدہ کا نام   خاوند کا نام اور اسکی والدہ کا نام

کشف القبور

اگر کوئی کسی مردہ کو دیکھنا چاہے اور یہ معلوم کرنا چاہے کہ قبر میں اس کی کیا حالت ہے تو چاہیئے کہ درود شریف اور دو رکعت نماز نفل پڑھے سورۃ فاتحہ اور سورہ اخلاص سات سات بار پڑھے ۔ پھر یہ درود شریف پڑھ کر سو جائے تو مردے کو دیکھے گا کہ کس حال میں ہے ۔

درود شریف یہ ہے ۔

درود شریف

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً وَّسَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

نقش طاعون

جب طاعون کی بیماری پھیلتی ہے تو بہت سے لوگ اس وبا کا شکار ہو جاتے ہیں ۔ اس نقش کو لکھ کر طاعون زدہ کے گلے میں ڈال دیں۔ نقش یہ ہے ۔

٧٨٦

و	ط	ب
ح	ہ	د
ح	د	و

انشاء اللہ بیماری جاتی رہے گی۔

لوحِ قرآنی

نٓ	حٰمٓ عٓسٓقٓ	الٓمٓ
یٰسٓ	حٰمٓ	الٓمٓصٓ
امین	قٓ	کٓھٰیٰعٓصٓ

اس کے دیکھنے والوں کی سب مشکلیں آسان ہوجائیں گی۔ صبح اس کو دیکھ کر جو کام شروع کیا جائے گا پورا ہوگا اور غیبی طریقوں سے رزق کی دولت آنے لگے گی۔

انشاءاللہ تعالےٰ

کوئی کام دشوار اور مشکل نہیں

کوئی کام دشوار ہوجائے (یا کوئی مشکل آن پڑے) تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا، وَّ اَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا اِذَا شِئْتَ ط

اے اللہ! کوئی کام بھی آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کردے، اور تو جب چاہے سنگلاخ (زمینوں) کو بھی نرم وہموار کردے۔"

برائے نظر بد

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا۔

جس کسی کو نظر لگ جائے یا آنکھیں دُکھنے آجائیں تو یہ پڑھیں اور پھونک ماریں۔ انشاءاللہ شفایاب ہوگا۔

اگر کسی پر جادو ہو یا پاگل

اگر کسی پر جادو ہو یا پاگل ہو تو اس کے لیے بہت مفید ہے
گیارہ مرتبہ لکھ کر گیارہ دنوں تک پلائے اور ایک اس کے بازو
پر باندھ دے بالکل صحت حاصل ہو گی
اگر پاگل ہو تو چالیس دن تک دھو کر پلائے ۔ صحت پائے
گا ۔ نقش مکرم یہ ہے ۔

۲۵۴	۲۵۷	۲۶۰	۲۴۶
۲۵۹	۲۴۷	۲۵۳	۲۵۸
۲۴۸	۲۶۲	۲۵۵	۲۵۲
۲۵۶	۲۵۱	۲۴۹	۲۶۱

چور معلوم کرنا

اس نقش کو لکھ کر تازہ پانی میں گھول کر مشتبہ اشخاص کو
پلائے تو جو شخص چور ہو گا فوراً بیمار ہو جائے گا ۔
نقش اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں ۔

۷۸۶

۲۰۸	۲۰۲	۲۱۰
۲۰۹	۲۰۷	۲۰۴
۲۰۳	۲۱۱	۲۰۶

پتھر پھینکنا

اگر کسی مکان میں آسیب بابت پتھر پھینکنا ہو تو یہ نقش لکھ کر کعبہ
شریف کی طرف رُخ کر کے دیوار کے ساتھ چسپاں کر دیں، پھر کبھی
پتھر وغیرہ نہ پھینکے جائیں گے نقش یہ ہے ۔



Scanned with CamScanner

اُمّ الصبیان

دلیو، پری ام الصبیان اور ایسے ہی دوسرے مہلک امراض کے دفعہ کے لیے جن کا تعلق بچوں سے ہے۔ یہ نقش معظم لکھ کر بچے کے گلے میں باندھ دے انشاء اللہ بچہ محفوظ رہے گا۔



مال دار کیلئے تحفہ

کوئی مال نہیں چھین سکے گا۔ اور نہ جانی نقصان کر سکے گا۔ اوّل آخر درود شریف پڑھے اور اس کا ورد رکھے۔

مَاشَاءَ اللّٰہُ لَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

گلے کے ورم کیلئے

گلے کے ورم اور درد کے واسطے یہ نقش لکھ کر درد اور ورم کی جگہ پر باندھے انشاء اللہ صحت ہوگی۔ نقش یہ ہے۔



حمل کا ساقط ہو جانا

اگر کسی عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو ایام حمل میں اس نقش کو لکھ کر دو۔ عورت اپنی کمر سے باندھے خدا کے فضل سے اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔

نقش یہ ہے۔

۷۲	۷۵	۷۸	۶۵
۷۷	۶۶	۷۱	۷۶
۶۷	۸۰	۷۳	۷۰
۷۴	۶۹	۶۸	۷۹

دردِ جگر کیلئے

یہ نقش سورہ الم نشرح کے اعداد کا ہے درد جگر کے مریض کو روز دھو کر چند دن تک پلائیں خدا کے حکم سے شفا پائے گا۔ یہ نقش پانی یا پان پر دم کر کے پلائے یا کھلائے تو شفا ہوگی۔

۷۸۶

۴۰۴	۳۹۲	۳۹۷	۴۰۲
۳۹۳	۴۰۷	۳۹۹	۳۹۶
۳۹۳	۴۰۷	۳۹۹	۳۹۶
۳۰۰	۳۹۵	۳۹۴	۳۰۶

خبیث جنات

اگر خبیث جنات کسی مکان پر پتھر پھینکتے ہوں تو نئی رکابی پر اس نقش کو لکھ کر کسی اونچی لکڑی سے باندھ کر بلندی پر لٹکا دیں۔ پھر کنکر پتھر نہ پھینکے جائیں گے۔ مجرب ہے نقش اگلے صفحے پر ہے۔

۷۸۶

۸	۱۰	۱۳	۱
۱۲	۱۵	۸	۶
۹	۵	۴	۴

میاں بیوی کے درمیان

کلام الٰہی کی یہ آیت مجرب ہے اس کے اعداد نکال کر نقش مثلث پر کر کے اور شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو دھو کر پلائے۔ محبت زیادہ ہوگی۔ آیت یہ ہے۔

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ط

ہر مشکل کا حل

ہر مشکل کو حل کرنے والا قرآنی نقش فتح و نصرت کے حل دشمن پر حاوی، شفا کے لیے اپنے بازو پر باندھے۔ نقش یہ

ہے۔

اذاجا	نصر اللہ	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ
نصر اللہ	والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا
والفتح	ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح
ورایت	الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد
الناس	یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک
یدخلون	فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	استغفرہ
فی دین	اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفرہ	انہ کان
اللہ	افواجا	فسبح	بحمد	ربک	واستغفرہ	انہ کان	توابا

دیگر

نقش کلمہ شریف بہت مفید۔ ہر مشکل آسان مجرب ہے۔

جبرائیل　　بسم اللہ الرحمن الرحیم　　میکائیل

لا	الہ	الا	اللہ
الہ	الا	اللہ	محمد
الا	اللہ	محمد	رسول
اللہ	محمد	رسول	اللہ

اسرافیل　　عزرائیل

دفعیہ جموگہ

جب بچہ پیدا ہو تو اسی دن تعویذ مندرجہ ذیل لکھ کر بنائے ایک بچے کے گلے میں اور دوسرا اس کی ماں کے گلے میں ڈال دے اور چالیس دن تک گلے ہی میں رہے الفاظ یہ ہیں۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

حلبوس ملبوس مولوس دلوشن حبوش معلموش مرطوش سلوضالیش الیسا ادماد ر یا فودیا احیون احیونون۔

برائے حُبّ

جمعرات کے دن روٹی پر لکھ کر کتے کو کھلائے۔ جوں جوں بھونکے گا۔ مطلوب بیقرار ہو گا۔ اور آخر کار مطیع فرمانبردار ہو جائے گا۔ اگر معشوق عورت ہو تو کتیا کو کھلاوے وہ یہ ہے

لاع بداع لا　　حم حاھنہ

زبان بند

زبان بندی دشمن اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ جہاں بھی جائے گا۔ لوگوں کی بدگوں سے محفوظ رہے گا۔ آیت شریف یہ ہے۔

یا ناھِرُ ذوالبطش الشدید وانت الذی لا یطاق استقامۃ وعقد اللسان

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

دیگر

اس کو چاروں ناموں (اپنا اور دشمن نام ماؤں کے) کے ساتھ لکھ کر ہمیشہ پاس رکھے دشمن بدگوئی سے باز رہے گا وہ یہ ہے۔

الا الا الا اللہ اللہ اللہ مہر مہر مہرا ھیا الشراھیا نہ حفی اشارہ لف ال غعرماہ ماہ ماہ زبان فلاں بن فلاں اتم المومنین بحق

اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ

چور کے لئے

کاغذ پر اس نقش کو لکھے اور چاولوں میں رکھ کر باری باری سے مشتبہ لوگوں کو کھلاوے تو چور کے حلق سے نہ اترے گا۔ اگر روٹی پر لکھ کر کھلائیں۔ تو بھی یہی اثر ہوگا۔ نقش یہ ہے

ط (۱) سہ اسہ

لا (۲) ملیسہ لاجہا

۹ ح ط ۔ ح مم

محبت جانی

سورۂ اذا زلزلت الارض زلزالھا کو بنولہ پر اکیس مرتبہ اس طرح دم کرے کہ ایک دانہ پر ایک بار پڑھ کر دم کرے اور ہر بار سورت ختم کرکے دم کرنے کے ساتھ فلاں بن فلاں میری محبت میں مبتلا ہو۔ ہر بار مع بسم اللہ کے تلاوت کرے اور ایک ایک

بتوے جب کہ اس پر دم کرے۔ آگ میں ڈال دے خدا کے حکم سے
اکیس دن کے اندر اندر اسی طرح کرنے پر دشمن جانی بھی محب جانی
ہوگا۔ اور حاضر ہو کر عاجزی کرے گا۔ یہ نقش لکھ کر اپنے
پاس رکھے۔

٧٨٦

١٦	٢٢	٣٢	ب
٣٠	٥	١٤	٢٤
٥	٣٦	١	١٢
٢٠	١٠	ح	٣٤

شفا امراض

بعض، شفائے امراض اور درجات ومراتب حاجات ومراتب
حاجات اور دفعہ سحر کے لیے بہت مؤثر ہے

الله ١٦٩٨٠	الله ١٦٩٨٣	الله ١٦٦٨٧	الله ١٦٩٧٣
الله ١٦٩٨٦	الله ١٦٩٧٤	الله ١٦٩٧٩	الله ١٦٩٨٤
الله ١٦٩٧٥	الله ١٦٩٨٩	الله ١٦٩٨١	الله ١٦٩٧٨
١٦٩٧٥ محمد	١٦٩٧٧ محمد	١٦٩٧٦ محمد	١٦٩٨٨ محمد

سنگرہنی کیلئے۔

یہ نقش سنگرہنی اور نفخ طحال اور لرزہ بدن اور رعشہ کی بیماری
کے واسطے بہت مفید ہے۔ لکھ کر گلے میں یا کمر کے ساتھ باندھے
نقش یہ ہے۔

٧٨٦

١٢	١٧	٢٥	٨	١
٥	١٤	١٦	٢٤	٧
٦	٤	١٢	٢٠	٢٢
٢٢	١٠	٢	١١	١٩
١٨	٢١	٩	٢	٢٥

گائے یا بھینس دودھ نہ دے

یہ نقش بنا کر ان کے
سینگ میں باندھے

یابدوح	٧٨٦	یابدوح
٢٤	١٨	٢٩
یابدوح	قاسم	یابدوح